


محسن غفاری

جلد ۱

ابلیس نامه

آیات • روایات • حکایات



ترجمه: حجۃ الاسلام السید حسنین رضوی کراروی

Payam: Kamel Abbas.

17. 672-372
15. 21,217
5. ٤٦
5. ٢٦٩

اعوذ بك من همزات الشياطين

(قرآن کریم)

ابليس نامہ

یا

شیطان کے قصے اور حکایات

آیات • روایات • حکایات

جلد اول

- لی یاد ہے اسی احادیث میں مذکور ہے -
- سے A-B سے مذکور ہے -
- بھلیک شفیعی بھلیک ابی الحسن (بھلیک) نے بخوبی کہا ہے -

بسمه تعالیٰ

کائنات خدا کی نگاہوں میں ہے اس کی نگاہ کے سامنے گناہ نہ کرو
(امام خمینی)

انتساب

ہم اپنی اس کتاب کو حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ سید روح اللہ الموسوی الحمینی
قدس اللہ سرہ الشریف کی روح پر فتوح سے معنوں کرتے ہیں جنھوں نے
وطن اسلامی ایران میں انقلاب کے ذریعہ طاغوتی نظام کی دھچیاں اڑادیں
اور ابلیسی تانے بانے کو بکھیر کر اس کے اسیروں اور قیدیوں کو ظلم کے شکنجه سے
نجات دی اور آدمی کے اندر سے خود اس کی خودی کے دیو کو باہر نکالا۔

انسان کو چاہئے کہ اپنی ہستی سے رہائی اختیار کرے
اور اپنی خودی کے دیو سے خود کو جدا کرے
کیونکہ جو شخص اپنے اندر ورنی شیطان (نفس) کے ساتھ مشغول ہے وہ
انبیاء علیہم السلام کے راستہ پر کیونکر چل سکتا ہے۔

(امام خمینی کے اشعار سے اقتباس کا ترجمہ)

نیلہ لیشافت احمدہ رہے تسلیم ہے

(۲۶۷۵)

ابليس نامہ - جلد اول

مؤلف	: دانشمند محترم جناب محسن غفاری
مترجم	: السيد حسین الرضا ضوی الکراروی
تعداد	: ہزار ۱۰۰۰
سہ اشاعت	: ۲۰۰۳
ناشر	: اعلم پیغمبری کیشن (زینبیہ اسلامی سینٹر، ممبئی)
پتہ	: ۱۳۲، زینبیہ امام باڑہ، حسینیہ مارگ، ممبئی - ۳، فون: ۰۲۳۲۲۷۰۱۹ / ۰۲۳۲۲۷۱۳۲۳
قیمت	: ۵۰ روپے۔

ملنے کے پتے:

- ۱۔ زینبیہ اسلامی سینٹر، ۱۳۲، حسینیہ مارگ، ممبئی - ۳
- ۲۔ حیدری کتب خانہ، امام باڑہ روڈ، ڈنگری، ممبئی - ۹
- ۳۔ الایمان بک سینٹر، حضرت عباس اسریث، امام حسین چوک ڈنگری ممبئی - ۹
- ۴۔ ادارہ نشریquam کربلا، غازی پور، گوگوان، مظفر نگر، یوپی۔
- ۵۔ جناب زین العباس صاحب شریف آباد کراپی، کوشتمی، یوپی۔
- ۶۔ جناب زیارت حسین رضوی صاحب، A-32، کریلی کالونی، ال آباد، یوپی۔
- ۷۔ جناب عین الرضا ضارضوی (حسین صاحب)، ہمام والی گلی، عباس نگر، مفتی محلہ، لاہور۔

بسمه تعالیٰ

فهرست

۱۳	ابتدائیہ	
۱۵	پیغام	
۱۷	تقدير	
۲۹	آغاز	
۳۳	ابليس آيات قرآنی میں	
۴۱	ابليس احادیث معصومین میں	
۴۵	ابليس حکایات اور قصے	
۴۷	شیطان کی ردمیں کتاب (خودنمائی)	
۴۷	شکار اور شکاری (غفلت)	۲
۴۹	حضرت یحییٰ کی شیطان سے ملاقات (شکم پری)	۳
۵۰	ابليس سے مناظرہ (خشاء و بدکاری)	۴
۵۱	شیطانی حیله (دین میں بدعت)	۵
۵۲	حضرت موسیٰ کی شیطان سے ملاقات (خود پسندی)	۶
۵۵	شیطانی درخت (خلوص)	۷
۵۷	شیطان کی درخواست (وسوسة)	۸

۷۷	شیطان اور امانت داری (امانت میں خیانت)	۲۶
۷۸	ابليس اور فرعون (خود پرستی)	۲۷
۸۰	ابليس اور فرعون (حمافت)	۲۸
۸۱	ابليس اور عبادت (غفلت، گمراہی، بے خبری)	۲۹
۸۱	ابليس اور عبادت (سجدہ)	۳۰
۸۲	ابليس اور حسد (نمایز)	۳۱
۸۲	شیطان تاک میں ہے (ہوشیاری)	۳۲
۸۵	ابليس تفرقہ ڈالنے والا ہے (صلاح و آشنا)	۳۳
۸۵	ابليس فتنہ جو ہے (جادائی)	۳۴
۸۶	شیطان کی صورت (احسان اور نیکی)	۳۵
۸۷	شیطان کا درد (ملاقات)	۳۶
۸۷	شیطان کے دوست (عیوب جوئی)	۳۷
۸۸	شیطان کی آمد (گالیاں)	۳۸
۸۹	فرشتتوں کی دوری (اثرائی جھگڑا)	۳۹
۹۰	واقعی بہادر (نفس پر قابو)	۴۰
۹۰	ذو لاکفل پیغمبر اور شیطان (غصہ)	۴۱
۹۳	شیطان کی دخل اندازی (غصہ)	۴۲
۹۳	شیطان کے حامی و مددگار (غیظ)	۴۳

۵۸	حضرت عیسیٰ کا ابلیس سے مناظرہ (خود کشی)	۹
۵۹	حضرت عیسیٰ کی شیطان سے گفتگو (قدرت خدا)	۱۰
۶۰	عبداللہ بن حنظله اور شیطان (بے نیازی اور غصہ پر قابو)	۱۱
۶۱	حضرت نوحؐ کی شیطان سے ملاقات (غصہ، فیصلہ، ناجرم)	۱۲
۶۲	شیطان مرید (بُرے صفات)	۱۳
۶۳	شیطان کی نصیحتیں (غور، حسد، لائق)	۱۴
۶۴	شیطان کا مقصد (شیطانی دل)	۱۵
۶۵	قبراً مَمْرُّ بِرَبِّهِ (غور)	۱۶
۶۶	حضرت عیسیٰ اور پتھر (تن آسانی)	۱۷
۶۷	شیطان اور انسان کی عمر (چالیس سال)	۱۸
۶۸	شیطان کا سونا جا گنا (با خوسونا)	۱۹
۶۹	شیخ مرتضیٰ النصاریؒ اور شیطان (خس)	۲۰
۷۱	شیطان اور پہلا سکہ (مال کی محبت)	۲۱
۷۲	شیطان اور کام (کام اور مزدور)	۲۲
۷۳	آدمی پر شیطان کے غلبہ کی راہ (حرام مال)	۲۳
۷۴	شیطان کی مان (صدقہ)	۲۴
۷۶	شیطان اور اس کی رنگ بہ رنگی ٹوپی (ناجرم سے خلوت، عہد و پیمان اور صدقہ)	۲۵

۱۱۸	شیطان کی خوش حالی (میاں بیوی کی لڑائی)	۶۲
۱۱۹	شادی کی تقریب میں شیطان کی حاضری (ناچ گانا)	۶۳
۱۲۲	ناچ گانے کے اثرات (بے شرم و بے غیرتی)	۶۴
۱۲۳	شیطان اور موسیقی کے آلات (غناہ، ہلوب)	۶۵
۱۲۵	شیطان پانچ طرح کے لوگوں کو نہیں بہکا سکتا، (خالص، ذاکر، عادل، صابر، راضی)	۶۶
۱۲۶	شیطان اور پرہیز گار لوگ (عاقبت متعین کے لیے ہے)	۶۷
۱۲۸	شیطان اور مال اندوزی (قارون کا خزانہ)	۶۸
۱۳۳	شیطان اور علماء و دانشمندان (بلعم باعور افریب کا نمونہ)	۶۹
۱۳۸	ایک رات خواب میں شیطان کے ساتھ (تفکر)	۷۰
۱۳۰	شیطان اور رات کی سیاہی (خلاف ورزی)	۷۱
۱۳۰	شیطان کے رات و دن کا شکر (غفلت اور فراموشی)	۷۲
۱۳۱	شیطانی خواب (وضوء و طہارت)	۷۳
۱۳۲	شیطان کو سرگوں کرنے کا ذریعہ (زبان پر قابو)	۷۴
۱۳۳	شیطان کی نظر میں بہتر اور بدتر لوگ (کنجوس اور سختی)	۷۵
۱۳۴	ابیس کی نصیحتیں (غضہ، کنجوسی، عورتیں)	۷۶
۱۳۵	شیطان اور کشتی نوچ (غور، حرص، ناحمہ کے ساتھ تہہائی)	۷۷
۱۳۶	شیطان کا مضبوط جان (عورتیں)	۷۸

۹۵	شیطان کا تجھ (دسوی و شمنی)	۳۳
۹۶	شیطان اور دلال (جھوٹی قسم)	۳۵
۹۶	شیطان اور گنگا ر (خواب و میداری)	۳۶
۹۷	شیطان مسجد میں (عالم کا سونا اور جاہل کی عبادت)	۳۷
۹۹	شیطان اور ابوسعید خراز (دل کا نور)	۳۸
۱۰۰	شیطان کی خوشی (قناعت)	۳۹
۱۰۰	شیطان کی عاجزی (مال حرام)	۵۰
۱۰۱	شیطان کی دوکان (حبت دنیا)	۵۱
۱۰۳	شیطان کی شکارگاہ (مال و دولت)	۵۲
۱۰۳	ابیس کاشکار (دنیا و آخرت والے)	۵۳
۱۰۴	شیطان کے جال اور حیلے (غضہ اور شہوت)	۵۴
۱۰۵	ابیس اور عابد (دھوکہ و فریب)	۵۵
۱۰۹	شیطان کا غالبہ (خود پسندی)	۵۶
۱۰۹	فخر و مبارکات (ریشمی بھڑکیے کپڑے)	۵۷
۱۱۱	شیطانی کام (وسوسہ)	۵۸
۱۱۳	شیطان قیامت کے دن (سرکش نفس)	۵۹
۱۱۵	شادی سے شیطان کی نفرت (شادی میں دین کی صفات ہے)	۶۰
۱۱۶	شیطان اور شادی کا عہد و پیمان (شادی شدہ وغیر شادی شدہ)	۶۱

۷۹	شیطان کا وسیلہ (عورتیں)	۱۳۸
۸۰	شیطان کی نگاہ (نظر بازی)	۱۳۹
۸۱	شیطان کے تیر تووار اور جال (نامحرم پر نظر ڈالنا)	۱۵۰
۸۲	شیطان کی روایات (دیوث)	۱۵۰
۸۳	شیطان اور بر صیاصاعد (زن کا بُر انجمام)	۱۵۲
۸۴	شیطان اور قومِ لوط (لواط)	۱۵۵
۸۵	ابیس کی خطرہ کی گھنٹی (آزو)	۱۵۶
۸۶	انسانوں کے سر پر شیطان کا تسلط (غفلت)	۱۵۸
۸۷	حق کی لبیک (دعاء)	۱۵۹
۸۸	شیطان کے شر سے پناہ مانگنا (ذکر خدا، قرآن، اہل بیت)	۱۶۰
۸۹	شیطان اور کتابِ خدا (تلاوتِ یس، الناس، کافرون)	۱۶۲
۹۰	انسان کا شفاف بدن اور شیطان (ذکر و یاد خدا)	۱۶۶
۹۱	زبان کا کام (قرآن و حدیث کا ذکر)	۱۶۷
۹۲	حمال شیطان (گناہان صغیرہ)	۱۶۸
۹۳	شیطان کی گریہ وزاری (نزول و حجی)	۱۶۹
۹۴	شیطان سے آس حضرت کی اڑائی (شیطان کی رسولی)	۱۶۹
۹۵	شیطان سے حضرت علی کی ملاقات (مہلت)	۱۷۰
۹۶	امیر المؤمنین کو گالیاں دینا (دشمن علی)	۱۷۱

۹۷	صیحہ آسمان و زمین (حق و باطل کے بیرو)	۱۷۳
۹۸	خرون و جمال (امام زمانہ کے حقیقی مددگار)	۱۷۵
۹۹	امام زمانہ کے ہاتھوں شیطان کی موت (مہلت کا خاتمه)	۱۷۷
۱۰۰	شیطان کی بادشاہی (غور)	۱۷۸
۱۰۱	ابیس کی چھ ہزار سال کی عبادت (غیر مخلصانہ عبادت)	۱۷۹
۱۰۲	عبادت ابیس کا اجر (دینوی اجر)	۱۸۰
۱۰۳	توحید ابیس (علم، ایمان، عمل)	۱۸۰
۱۰۴	شیطانی انا (خود پرستی)	۱۸۱
۱۰۵	شیطانی میتیت (لفظ "میں")	۱۸۲
۱۰۶	حضرت عیسیٰ کی ولادت (جلد بازی)	۱۸۲
۱۰۷	ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (امت کو وارنگ)	۱۸۳
۱۰۸	بعثت پیغمبر (دنیا طلبی)	۱۸۵
۱۰۹	ابیس کی شادی (دنیا)	۱۸۶
۱۱۰	راہ زن شیاطین (دینوی چمک دمک)	۱۸۷
۱۱۱	راہ حق کے ڈاکوں (نفس، ہوئی، شیطان)	۱۸۷
۱۱۲	تین قدم مستحکم (نفس، ہوئی، دنیا، شیطان)	۱۸۸
۱۱۳	ابیس کی بات (رغبت دنیا)	۱۸۹
۱۱۴	کشما اور سڑا ہو مردار (دنیا کی واقعی تصویر)	۱۸۹

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ابتدائیہ

یہ مشہور مثل کہ ”شیطان مارتا نہیں ہے بلکن کرتا ہے“ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کیوں کہ اسے خدا نے اس بات کا اختیار ہی نہیں دیا ہے البتہ اپنے وسوسوں کے ذریعہ آدمی کو برائیوں پر اس طرح آمادہ کر دیتا ہے کہ بندہ خدا کو بھول کر اس کا غلام بن جاتا ہے، شیطان کا بندوں پر کتنا اختیار ہے اور آدمی اپنے امور میں کس حد تک صاحب اختیار ہے اس کا جاننا ضروری ہے نیز اس بات سے بھی واقعیت ضروری ہے کہ شیطان کن کن را ہوں اور ہتھنڈوں کا سہارا لے کر آدمی کو بہکتا اور صراط مستقیم سے منحرف کرتا ہے۔ یہ موضوع بذات خود لچک پ بھی ہے اور عبرت انگیز بھی ہے۔

”ابليس نامہ“ ان ہی مطالب کا مجموعہ ہے جو دو جلدوں پر مشتمل داشمند محترم جناب حسن غفاری کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔

افادیت کے پیش نظر پہلی جلد کا ترجمہ جو برادرم جناب جاوید رضوی صاحب کی مسلسل تحریک سے ممکن ہوا کہ آپ کے سامنے ہے جبکہ دوسری جلد بھی اشاعت کے لیے آمادہ ہے۔ میں ان تمام افراد کا مشکور ہوں جنھوں نے اس کتاب کی اشاعت میں حصہ لیا یا حوصلہ افزائی کی ہے خصوصاً برادرم جناب رضوی جن کا تعاقون ہر موڑ پر شامل حال رہا ہے۔

۱۹۱	چار الہامات (وسوہ)	۱۱۵
۱۹۳	شیطان کا مشاہدہ (وسوہ)	۱۱۶
۱۹۷	شیطان کی خوشی اور غم (بعثت)	۱۱۷
۱۹۸	ذبح اسماعیل کا واقعہ (وسوہ نفس کو سٹگ سار کرنا)	۱۱۸
۱۹۷	شیطانی وسوہ (ہوشیار آدمی)	۱۱۹
۱۹۸	حضرت ایوب اور شیطان (صربو شکر)	۱۲۰
۲۰۳	ابليس کا طعنہ (شکر)	۱۲۱
۲۰۳	حضرت سلیمان اور شیاطین (شکر نعمت)	۱۲۲

۲۰۴	شیطان کا فرشتہ (فرشتہ ملائیں لے لیجئے)	۱۲۳
۲۰۵	شیطان (لے لیا انتہا) (لے لیا انتہا لے لیجئے)	۱۲۴
۲۰۶	اسماں کا طعنہ (کریم (کریم)) (لے لیجئے)	۱۲۵
۲۰۷	ربان کا حرم (قرآن مصطفیٰ کاظم) (لے لیجئے)	۱۲۶
۲۰۸	خالی شیطان (لے لیجئے) (لے لیجئے) (لے لیجئے)	۱۲۷
۲۰۹	شیطان کی کبریٰ نیزی (لے لیجئے) (لے لیجئے)	۱۲۸
۲۱۰	شیطان سے اگر حوصلہ (لے لیجئے) (لے لیجئے)	۱۲۹
۲۱۱	جناب حسن عاصم علیہ کی نعمات (لے لیجئے) (لے لیجئے)	۱۳۰
۲۱۲	لے لیجئے	۱۳۱

خداوند عالم ہم سب کی نیز جملہ خدمت گذاران اسلام کی توفیقات میں
اضافہ فرمائے۔ آمین!

والسلام علی من اتبع الهدی

السید حسین الرضوی کرا روی

زینبیہ اسلامی سینٹر - ممبئی

محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

بسمہ تعالیٰ

پیغام

اعود بالله من الشيطان الرجيم

لوگوں کو شیطان کے بارہ میں جانے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے واقف ہونے کی جستجو رہتی ہے اور اس موضوع سے متعلق بہت سے سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور انھیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، ”زینبیہ اسلامی سینٹر“ نے اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے موضوع میں مکمل کتاب ”ابیس نامہ“ کی اشاعت کا ارادہ کیا ہے جس سے بڑی حد تک معلومات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی خود اعتمادی کو قوت ملے گی۔

میری دعا ہے کہ خداوند عالم ادارہ کو مزید دینی خدمت کی توفیق دے اور لوگوں کو اس کتاب کے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔
آمین!

ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی
(ایم پی، راجیہ سبھا)

پہلی سے اس بات سے ہمارا جعل کم لے گئے جس کا تحریک کا

لقد

اعوذ بالله من الشّيّطان الرّجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وقال الشّيّطان لِمَا قضى الْأَمْرَانَ اللَّهُ وَعْدَكُمْ
وَعْدَالْحَقِّ وَوَعْدَكُمْ فَإِخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي
عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي
فَلَا تَلُومُنِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخَكُمْ
وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخَيِّ أَنِّي كَفَرْتُ بِمَا اشْرَكْتُمُونَ مِنْ
قَبْلِ أَنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - (ابراهيم / ٢٢)

اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل بحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا پھر میں نے اپنے وعدہ کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد ری کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہونچ سکتے ہو میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بننا

ہو سکا، اس نے کہا میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہی مائل خنک مٹی سے پیدا کیا ہے، ارشاد ہوا تو یہاں سے نکل جاتا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔

شیطان نے بارگاہ خدا سے نکلتے ہوئے قسم کھائی کہ وہ انسان کے گمراہ کرنے اور اسے فریب دینے میں ہرگز دربغ نہ کرے گا اور آدمی کو راہ ہلاکت پر ڈالے بغیر چین سے نہ بیٹھے گا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ:

شیطان خدا کے دروازہ کا لکتا ہے جو اجنبیوں کو اس کی بارگاہ میں نہیں آنے دیتا۔ پوچھا کہ اجنبی کون لوگ ہیں؟ جواب ملا: خطا اور گناہ کرنے والے، جس طرح کتنا اجنبی افراد کو گھر میں گھنے نہیں دیتا اسی طرح شیطان بھی گنگاروں کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روکتا ہے۔

لہذا انسان کو اپنا دامن، گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے اور پروردگار کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ وہ خدا کی بارگاہ میں اجنبی نہ رہے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے کیونکہ اس نے قسم کھا کر کہا ہے:

..... فَعَزْتُكَ لَا غَوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَبَادُكَ مِنْهُمْ
المُخْلَصِينَ.

(ص/ ۸۲-۸۳)

تو پھر تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنالیا ہے۔

دیا اور بے شک طالمین کے لیے بہت بڑا درنَاک عذاب ہے۔

شیطان، خداوند عالم کی بارگاہ سے دھنکارا ہوا خرا بیوں اور برائیوں کا وہ نمونہ ہے جو آدمی کی خواہشات اور اس کی نیتوں میں کار فرمائے اور اس کا نتیجہ رفتار و کردار کی وہ برائیاں ہیں جو آدمی سے صادر ہوتی ہیں۔

شیطان کی بغاوت و نافرمانی کی ابتداء س وقت ہوئی جب اس نے خدا کے سامنے غرور، خود پسندی اور حسد کو اختیار کرتے ہوئے اس کے حکم کے برخلاف حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

و اذ قلنا للملائكة اسْجَدُوا لِأَدْمَ فَسَجَدُوا إِلَيْهِ
ابليس ابی واستکبر و كان من الكافرين۔

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کیا اور غرور کیا اور کافرین میں ہو گیا۔

قَالَ يَا ابليس مالِكَ الْأَنْتَكُونَ مَعَ السُّجَدِينَ قَالَ لَمْ
اَكُنْ لَا سَجَدَ لِبَشَرٍ خَلْقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِّا
مَسْنَوْنَ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ
اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔

(۳۲/۳۵ جم)

اللہ نے کہا اے ابليس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہ

یعنی وہ لوگ جو گناہ سے پاک و پاکیزہ، ریا کاری سے دور، صرف اور صرف خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے اطاعت و عبادت انجام دیتے ہیں اور ان کے تمام کام رضاۓ خدا کے حصول کے لیے ہوتے ہیں اور خدا کے علاوہ ان کی نظر کسی اور چیز پر نہیں ہوتی۔ شیطان نے اپنی اس قسم کی بناء پر حضرت آدم کے سامنے اپنے مکروہ فریب کے ذریعہ ترک اولیٰ کی راہ ہموار کی اور انہوں نے وہ چیز کھالی جس سے انھیں روکا گیا تھا جس کے نتیجہ میں وہ زمین پر اترادیے گئے۔

زمین پر آدم، اتارے جانے کے بعد بہت نادم و پیشمان ہوئی اور تو بہ کرنے لگے ان کی آہوں اور اشکوں والی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ انہوں نے رضاۓ پروردگار کو دوبارہ حاصل کرتے ہوئے خود کو ترک اولیٰ کے زندان سے آزاد کرالیا۔

لیکن شیطان آرام سے نہ بیٹھا اور اس نے آدمی کی تقریبی کی مزید کوششیں شروع کر دیں اور ہزاروں مکروہ فریب کے ذریعہ جناب ہائیل کو ان کے بھائی قاتیل کے ہاتھوں قتل کرا دیا اسی وقت سے انسان کا خود انسان کے لیے ظلم و تم روارکھنا شروع ہو گیا۔

سرکشی و نافرمانی، قتل و غارت اور خیانت کے اس ماحول میں خداوند عالم نے اپنی وسیع رحمت کے ذریعہ انسان کی نجات کا بندوبست کیا اور انسان کے سامنے مختلف دلائل اور آیات قرار دیں تاکہ وہ شیطان کے مکر سے امان میں رہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے ظاہری اور باطنی تجسس سے استفادہ کر سکے۔

ظاہری تجسس سے مراد انبیاء و مسلمین، اوصیاء اور ربائی علماء ہیں جو خلق خدا پر

تجسس ہیں اور باطنی تجسس سے آدمی کی عقل جو حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کی میزان ہے، مراد ہے۔

لہذا خداوند عالم نے اپنی تجسس کو تمام کر کے شیطانی وسوسوں اور نیرنگیوں کو ہر ممکن طریقہ سے لوگوں کو اس اعتبار سے دکھا دیا کہ اے انسان دنیا میں تیری خوش بختی اور بد بختی، شیطانی راستے سے تیری ہوشیاری یا غفلت کی مر ہوں منت ہے۔ اگر شیطانی راستے سے دوری اختیار کی تو خدا تک پہنچنے اور بہشت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کا موقع ملے گا اور اگر اس سے دوری اختیار نہ کی جائے گی تو آتش جہنم کی گرفتاری پیش آئے گی۔

ہم آدم کی اولاد، شیطانی فریب کاریوں اور مکاریوں کے اسباب کی شناخت کر کے دونوں جہاں کی بد بختیوں سے نجات پا کر اپنا حقیقی مقام اور سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔

اب یہ شیطانی آلات و اسباب جو انسان کی رفتار و کردار کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں انھیں آیات، روایات اور قصوں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے تاکہ ان کی شناخت کر کے اس قسم کے اعمال اور کم از کم نبیتوں سے خود کو بچائیں اور نفسانی مکر جو درحقیقت شیطانی چال ہے اس سے نجات پائیں۔

لہذا پہلا کام یہ ہے کہ ہم شیطان کے راستے کی شناخت حاصل کریں دوسرے یہ کہ اس سے دوری اختیار کریں اور یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے نفس کو شیطانی وسوسوں سے پاک و پاکیزہ بنالیں تاکہ خدا کی معین کردہ صراط مستقیم پر چلنے کی راہ ہموار ہو سکے لہذا انسان کو چاہیئے کہ وہ اپنے شیطانی نفس پر غلبہ پا کر

اسے اپنے حکم کا بندہ بنالے نہ یہ کہ انسان اپنے نفس کا بندہ بے دام بن جائے جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

”ان شیطانی اسلام بیدی“

میرا شیطان اور میرا نفسانی ہمزاد مجھ سے مغلوب ہو کر میرے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا ہے۔^۱

تمہارا اسلام تمہارے شیطانی نفس کے مسلمان ہونے سے تعلق رکھتا ہے دوسرے الفاظ میں تمہارا اسچا اسلام، ایمان اور عقیدہ خود تمہارے نفس کے اسلام و ایمان و اعتقاد کے مطابق ہے جو کافر اور سرکش ابنیس کے شر سے محفوظ رہے ورنہ دوسری صورت میں تم خود اپنی نیت اور برے اعمال کے اعتبار سے انسان کی شکل میں شیطان ہو گے۔

اور یہ شیطان جوانانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یہ دوپیروں والے جانور کی طرح سرکش ہے اور یہی تمہارا وہ نفس ہے جسے نفس اماراتہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اس نفس اماراتہ سے کہ جو لکھر شیطان کا سپاہی ہے اس سے جنگ و جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے کیونکہ نفس اماراتہ سے جہاد، جہاد اکبر ہے۔ اس کا گلا اپنے

^۱ اس سے ملتی جلتی دوسری حدیث بھی پیغمبر سے مردی ہے ”ان شیطانی امن بیدی“ ”میرا شیطان میرے ہاتھوں پر ایمان لے آیا“ - سیاحت غرب صفحہ ۹۸، کشف الحقائق صفحہ ۲۲، احادیث مشتوی صفحہ ۱۳۸، مجتبی البیضاء جلد ۵ صفحہ ۳۹، احیاء العلوم جلد ۳ صفحہ ۵۸، سحار الانوار جلد ۷ صفحہ ۳۰، اربعین امام حسینی صفحہ ۱۳۵، عوایل الملائی جلد ۳ صفحہ ۹۷، علم الایقین جلد ۷ صفحہ ۲۸۲، تفسیر مشنوی جلد ۱۱ صفحہ ۲۷۱۔

پنج سے مضبوط طریقہ سے پکڑو اور اسے اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارو اور اس کے سینہ پر سوار ہو کر بغرض، کہینہ دل اور قلب کی الہی قوت کے ذریعہ اپنے ایمان کے خبر سے کہ جو الہی ساخت کا تمہارے وجود کے اندر پایا جاتا ہے اسے کھینچو اور اس کے سیاہ دل کا نشانہ لے کر مار دو اور اس کی شیطانی رُگ جو تمہاری رحمانی حیات کے خلاف ہے اسے کاٹ ڈالو اور الہی روح جو تمہارے وجود میں پھونکی گئی ہے اسے اس کے دوسوں سے نجات دواں احتیاط کے ساتھ کے ساتھ کہ اس کا گندہ اور سیاہ خون تمہارے پاک و پاکیزہ سفید دامن کو آلو دہ نہ کر دے کہ یہ خود ایک محاذ ہے جسے سر کرنے کی ہر انسان کو تمٹا ہوتی ہے۔

خداوند عالم کا ارشاد ہے:

انَّ النَّفْسَ لَا مَارَةٌ بِالسُّوءِ

بِئْشَكَ نَفْسٍ بِرَأْيَوْنَ كَمْ دَيْنَ وَالاَهَيْ -^۱

ومَا اصَابَكَ مِنْ سُيَّغَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
جو بدی اور برائی انسان تک پہنچتی ہے وہ اس کے خبیث اور شیطانی نفس کی دین ہے۔^۲

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

صَافُوا الشَّيْطَانَ بِالْمُجَاهَدَةِ وَأَغْلَبُوهُ بِالْمُخَالَفَةِ
تَزَكَّوْا وَأَنْفَسُكُمْ وَتَعْلُوْعُهُمْ عَنْ دُرْجَاتِكُمْ

شیطان سے جنگ کرنے کے لیے صفت ہو جاؤ اور اس کے وسوسوں کی مخالفت کر کے اس پر قابو حاصل کرو یہاں تک کہ تمہارا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہوں۔^۱

یہ تمام تاکیدات اس بات پر چلتی و دلیل ہیں کہ جان لو اور سمجھ جاؤ اور اس جانکاری کے ذریعہ اپنی حفاظت کا انتظام کرو اور پاک نیت اور خالص عمل کے ذریعہ شیطان کے متزلزل حصے سے خود کو نجات دے کر الہی قلعہ میں امان حاصل کرو۔ جیسا کہ آنحضرتؐ کا ارشاد گرامی ہے:

”اعدی عدوک نفسك التي بين جنبيك“^۲

تمہارا سب سے زیادہ اور سخت ترین دشمن وہی خبیث شیطانی نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔^۳

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

نفسك اقرب اعدائك اليك

تمہارا نزدیک ترین دشمن تمہارا خود اپنا شیطانی نفس ہے۔^۴

ایک دوسرے جملہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

لا عدو اعدنى على المرأة من نفسه

کسی کے لیے خوداں کے نفس سے بدتر کوئی دشمن نہیں ہے۔^۱

یہ مختصر سی کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس میں شیطانی اعمال و کردار پر ایک سرسری نظر ڈالی گئی۔ اسے غور سے پڑھیے اور انہٹائی توجہ اور دقت نظر سے اس سے اپنی نجات اور بچاؤ کا سامان کیجئے کیونکہ ایک لحظہ کی غفلت بھی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہی۔

حاج امام قلیؒ نج جوانی کہتے ہیں:^۲

میں نے بڑھاپے اور انہٹائی ضعیفی میں خود کو شیطان کے ساتھ ایک بلندی پر کھڑا دیکھا، میں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور اس سے خوشامد کی اور کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اگر ممکن ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ شیطان نے مجھ سے کہا: اس طرف دیکھو! اب جو میں نے نظر ڈالی تو ایک اتنی گھری کھائی اور درہ دکھائی دیا کہ جس کے دیکھنے سے خوف و ہراس کی شدت سے انسان بہوت رہ جائے۔ شیطان نے کہا: میرے دل سے تورجم و مرزادت چھوکر بھی نہیں گذر رہے اگر تم پر میرا بس چلے تو تمہاری جگہ یہی گھری کھائی ہے جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو میں تمہیں اس میں اتنی زور سے ڈھکلیوں گا کہ تمہارے جوڑ جوڑ علاحدہ ہو جائیں گے اور جسم نکلے ٹکڑے ہو جائے گا۔

^۱ غر راجحہ جلد ۲ ص ۲۱۷، ۲۱۸

^۲ یہ حکایت کامل طور پر کتاب میں بیان ہوئی ہے۔

^۳ غر راجحہ جلد ۲ ص ۲۱۷، ۲۱۸

^۴ مجموعہ درام جلد ۱ ص ۵۹، ۵۰، مجمع البیضاء جلد ۵ ص ۶۲، بخار الانوار جلد ۷ ص ۶۳، شرح

اصول کافی مذاہدہ ص ۳۹۶، نجح الفضاحہ ص ۳۲۸

^۵ غر راجحہ جلد ۲ ص ۲۰۷، ۲۰۸

لہذا اپنی دنیوی عمر کے آخری لحظتک ہوشیار رہنا تاکہ شیطان کے چنگل میں پھنس کر اس میں گرنے نہ پاؤ۔ دوسری طرف اپنی زندگی میں مہلت کے ان دنوں کو غنیمت سمجھو اور آخرت کے سفر کے لیے زاد و توشہ حاصل کرو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”والفرصة تمر مرًا السحاب“ فرست کو غنیمت جانو کیونکہ وہ اب کے مانند غیر محسوس طریقہ سے گزر جاتی ہے۔

لیکن یہ بھی آدمی کو بخوبی جانتا چاہئے اور اس سے غفلت نہیں برداشت چاہئے کہ حضرت نے ایک دوسرے جملہ میں ارشاد فرمایا ہے:

”نفس المرء خطاه الى اجله“

لوگوں کی ہر سانس موت کی طرف اٹھتا ہوا ایک قدم ہے۔ اور اس سالک الی اللہ کی بات پر دھیان دو جس نے کہا ہے: موت کی مثال اس تیر جیسی ہے جو تمہارا نشانہ لے کر چلا دیا گیا ہے اور تمہاری عمر اس تیر کے فاصلہ طے کرنے کی مدت ہے۔

لہذا کہیں تمہاری عمر تمہارے سرکش نفس کی چراگاہ نہ بن جائے کہ اس صورت

میں دنیا و آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعاؤں میں عرض کرتے ہیں:

اللَّهُمَّ وَ عَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بَذَلَةً فِي طَاعَتِكَ
فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبَضْنِي إِلَيْكَ
قَبْلَ أَنْ يَسْقِي مَقْتُكَ إِلَيَّ أَوْ يَسْتَحْكِمْ غَضْبُكَ عَلَيَّ
پُرُورُ دُكَارِ! جَبْ تَكَ مِيرِی عمرِ تیرِی عبادت و فرماں برداری کی راہ میں
صرف ہو رہی ہے مجھے عمر و زندگی عنایت فرمائی اور جب میری عمر
شیطان اور خواہشات نفسانی کی چراگاہ بن رہی ہو تو سخت دشمن کے
میری طرف متوجہ ہونے، تیرے خشم و غصب کا سزاوار قرار پانے اور
تیری رحمت کے سایہ سے دور ہونے سے پہلے میری روح قبض
کر لے۔

شیطان کا راستہ اور اس کے مکروہ فریب واضح اور مشخص ہیں اور خدا کی صراط مستقیم بھی روشن ہے۔ اور ماں سے زیادہ مہربان خدا اپنے نیک بندہ کی پذیرائی کے لیے منتظر ہے اس نے اپنے بندہ کی ضیافت کا انتظام بہشت میں بھیش باقی رہنے والی نعمتوں کے ذریعہ کیا ہے۔ جسے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے فراہم کیا گیا ہے کہ ہم سب کی بازگشت یقیناً اسی کی طرف ہے۔

لہذا بھی سے ہم پاک و پاکیزہ قلب اور خلوص کے ساتھ خدا کی طرف پلٹ

جا کیں کہ تو بے کا دروازہ کھلا ہے اور اس کی رحمت و خخشش کا دامن انہائی وسیع ہے۔
امید ہے کہ بھر پور جانکاری اور شناخت اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے
آپ کو شیطانی قید و بند سے نجات دلائیں گے اور شیطانی جال کو کاٹ کر اور ابنیں
کے وسوسوں کو ختم کر کے خدا کی خالص بندگی کی راہ میں قدم بڑھائیں گے کہ جس
کا انجمام خدا کی ہمیشہ رہنے والی بحث اور ابدی سعادت و فلاح ہے۔

رب اعوذ بالله من همزات الشیاطین۔

پروردگار میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

بیہق شعبان ۱۴۲۱ھ مطابق ۶ دیماہ ۱۹۰۷ء

العبد العاصی والراہی الی اللہ تعالیٰ

محسن غفاری

بسم الله الرحمن الرحيم

آغاز

اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے دینی بھائیوں اور بہنوں کی آگاہی کے
لیے چند اہم نکات کی طرف اشارہ ضروری ہے:

پوری تاریخ عالم خصوصاً دور حاضر جسے عصر تمدن کے نام سے جانا جاتا ہے
اور حقیقی معنی میں جو عصر تمدن نہیں بلکہ بہنگی، لاپرواہی اور انسانی اور الہی اخلاق
سے خالی زمانہ ہے اس میں القنایات، تلقین اور شیطانی وسوسوں کو بقولے ”اگر یہ
دو پیروں کا جانور چھوڑ دیا جائے تو دنیا کو فاسد کر دیگا“، کوہم سب نے دیکھا، سنا
اور محسوس کیا ہے اور اس کا یہ کردار کہ وہ کیوں کر حق کو چھپاتا اور باطل کو سجا کر پیش
کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ خود ہی حق و حقیقت کو بیان کرتا ہے یہ سب عبرت آموز
ہے۔ اسی وجہ سے مثالوں، داستانوں، حکایتوں کو جو معتبر احادیث و روایات کے
مطابق نقل ہوئی ہیں، قارئین کرام کی سہولت کے لیے اصل موضوع اور مضمون کو
امانت داری سے مختصر تغیر و اضافات کے ساتھ سلیس زبان میں لکھا گیا ہے۔

ایک اہم نکتہ جو اس کتاب میں لایق توجہ ہے وہ یہ ہے کہ عملی اور اخلاقی
موضوعات کو ایک نئے قالب اور سانچے میں پیش کیا گیا ہے جس میں خودا بنیں
انی زبان سے بیان کرتا ہے کہ وہ کیوں کر انسان کو مختلف طریقوں سے فریب
دیکر اور گمراہی کے جال میں پھنسا کر ایک شخص، ایک خاندان اور پورے ایک
معاشرہ کو فساد و تباہی کے گھاٹ اتارتا ہے جس میں لوگوں کی اکثریت بتلا ہے

کیونکہ اگر شیطانی اور نفسانی و سو سے انسانوں کو گراہ نہ کرتے تو ہمارا پاکیزہ سماج گناہ معصیت اور خطاء دور رہتا، اور ہم ایک ”مَدِيْنَةٌ فَاضِلَّةٌ آئِيْذِيلُ شَّيْءٍ“ کے افراد ہوتے۔ ہم شب و روز یہ دیکھو اور سن رہے ہیں کہ شیطان سے دھوکہ کھانے والے انسان مختلف طریقوں سے اپنے ہاتھوں کو جرام سے آلووہ کرتے ہیں اور معصیت کے دل میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں یہ خود شیطانی نفس امارہ کے وسوسوں کا ثبوت ہے۔

اس کتاب میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان تاکیدات اور اخلاقی اور عملی پندو نصائح کے ذریعہ لوگ کمال ہوشیاری سے خود اپنے آپ کو گناہ و معصیت سے پرے کر کے شیطان کے پھندے سے بچائیں اور امنیت، صداقت، دیانت اور اخلاقی فضائل کے سایے میں ہر طرح کی برائی سے دور دینوی انفرادی، خاندانی اور سماجی خوش نصیبی جس کا نتیجہ آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی سعادت ہے حاصل کریں۔

اللهی ولا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین ابدًا۔
بار الہا ہم کو پلک جھکنے کی مقدار کے برابر بھی ہمارے حال پر نہ
چھوڑنا۔

یا ارحم الرحمین

میزان الحکمة جلد ۱۰، صفحہ ۱۳۳، بحوار الانوار، جلد ۱۶ صفحہ ۲۱۸، وسائل الشیعہ جلد ۱۳، صفحہ ۳۵۲، اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۳۷۳، وسائل الشیعہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۳۳، ابواب تعقیب۔

اپلیس آیات قرآنی میں:

الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون.

(مجادلہ/۱۹)

آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک شیطان کا گروہ بہر حال گھٹائھانے والا ہے۔

ان الشیطان للانسان عدو میین۔

(یوسف/۵)

بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوادثمن ہے۔

و زین لهم الشیطان اعمالهم۔

(نمل/۲۲)

اور شیطان ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں حسین بنادیتا ہے۔

يا بني ادم لا يفتنكم الشیطان.....انه يراكم هو و

قبيله من حيث لا ترونهم۔

(اعراف/۲۷)

اے اولاد آدم! خبردار شیطان تمہیں بھی نہ بہکار دے..... وہ اور اس

کے قبیلہ والے تمہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ تم انھیں نہیں دیکھ

رہے ہو۔

- من بھی نہیں

فاتبعه الشیطان۔ (اعراف/۲۷۵)

اور جو شخص بھی اللہ کے ذکر کی طرف سے غافل ہو جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہو گا۔
وَ مَنْ يَتَخَذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خَسِرَ أَنَا مُبَيِّنًا۔

(ناء/ ۱۱۹)

اور جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی و سر پرست بنائے گا وہ کھلے ہوئے خسارہ میں رہے گا۔
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخُذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُوكُمْ
حَزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعْيِ۔

(فاطر/ ۶)

بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن بھروسہ اپنے گروہ کو صرف اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ وہ سب جہنمیوں میں شامل ہو جائیں۔

إِنَّمَا يَنْسِينَكُمُ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِ إِنَّمَا
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔

(انعام/ ۲۸)

اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھتا۔

شیطان انسان کے پیچے لگا ہوا ہے۔
وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْأَنْسَانِ خَذُولًا۔

(فرقان/ ۲۹)

اور شیطان تو انسان کا رسوا کرنے والا ہے ہی۔
وَ مَنْ يَكْنِ الشَّيْطَانَ لِهِ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔

(ناء/ ۳۸)

جس کا شیطان ساتھی ہو جائے وہ بدترین ساتھی ہے۔
وَ مَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا۔

(ناء/ ۱۲۰)

اور شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ وہو کہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

اسْتَحْوَذُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَإِنْسَهُمْ ذَكْرُ اللَّهِ أَوْ لِنْكَ
حَزْبُ الشَّيْطَانِ۔

(بجادل/ ۱۹)

ان پر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس نے انھیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے آ گاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہے۔

وَ مَنْ يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيَّضٌ لِهِ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔

(رخف/ ۳۶)

انہ لیس له سلطان علی الّذین امنوا و علی ربہم
یتوکلُون انما سلطانه علی الّذین یتولونه والذین
هم به مشر کون۔

(نحل/ ۹۹-۱۰۰)

شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحبان ایمان ہیں
اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا
ہے جو اسے سرپست بناتے ہیں اور اللہ کے بارہ میں شرک کرنے
والے ہیں۔

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ امْنَوْا لَا تَتَّبِعُوا خَطُوطَ الشَّيْطَانِ وَ
مَن يَتَّبِعُ خَطُوطَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ۔

(نور/ ۲۱)

اے ایمان لانے والو شیطان کی پیروی نہ کرو اور جو شخص شیطان کی
پیروی کرے گا تو وہ اسے حتماً رے اور ناپسند کاموں کا حکم دے گا۔

أَنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ
تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصَرُونَ۔

(اعراف/ ۲۰۱)

بے شک جو ملتی ہیں جب شیطان کی طرف سے انھیں کوئی خیال چھوٹا

بھی چاہتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور بصیرت پیدا کرتے ہیں۔
وَ اَنَّهُمْ لِيَصْدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسِبُونَ اَنَّهُمْ
مُهَتَّدونَ حَتَّىٰ اِذَا جَاءُنَا قَالَ يَالِيتَ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ
بَعْدَ المُشْرِقَيْنَ فَبَئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمُ اَذْ
ظَلَمْتُمُ اَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرٌ كُونٌ۔

(زخرف/ ۳۸-۳۹)

اور یہ شیاطین ان لوگوں کو راستہ سے روکتے رہتے ہیں اور یہ یہی سمجھتے
ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئیں
گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہمارے اور ان کے درمیان مشرق و
مغرب کا فاصلہ ہوتا یہ تو بہت بُرا ساقِ حق نکلا اور یہ سب با تین آج
تمہیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں کیونکہ تم سب عذاب میں برابر
کے شریک ہو کر تم نے بھی ظلم کیا ہے۔

هَلْ اَنْبَكُمْ عَلَىٰ مِنْ تَنَزَّلَ الشَّيْاطِينَ، تَنَزَّلَ عَلَىٰ
كُلَّ اَفَاكِ اثِيمٍ۔

(شعراء/ ۲۲۱-۲۲۲)

کیا میں تمہیں اس بات سے آگاہ کروں کہ شیاطین کس پر نازل
ہوتے ہیں، وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں۔

اپلیس

احادیث میں

پنجمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”إِنَّ الشَّيْطَانَ ذُئْبُ الْأَنْسَانِ“

”بے شک شیطان، انسان کے لیے“

بھوکا بھیریا ہے۔

ابلیس احادیث مخصوصیں میں:

قال رسول اللہ: انَّ الشَّيْطَانَ ذُبَّ الْأَنْسَانَ

(نحو النصاحة/ ۳۵۲)

پیغمبر اسلام نے فرمایا: شیطان آدمی کے لیے بھیریا ہے۔

قال علیٰ: غرور الشیطان یسُوْل و یطمع

(غراجم جلد ۲/ ۳۷۸)

حضرت علیٰ نے فرمایا: شیطان کا فریب گراہ کرتا ہے اور انسان کو لائق میں ڈالتا ہے۔

قال امیر المؤمنین: الشیطان المضل

(نحو البلاغہ حکمت/ ۳۱۵)

امیر المؤمنین نے فرمایا: شیطان گراہ کرنے والا ہے۔

قال امیر المؤمنین: انَّ الشَّيْطَانَ قدْ ثَبَطَكَ

(نحو البلاغہ مکتب/ ۷۳)

امیر المؤمنین نے فرمایا: شیطان تمہیں روکنے اور مشغول رکھنے والا ہے۔

قال امیر المؤمنین: واتّقُوا مدارج الشیطان

(نحو البلاغہ خطبہ/ ۱۵۱)

امیر المؤمنین نے فرمایا: شیطان کے فربی جال اور راستہ سے ڈرو۔

قال رسول اللہ: ان الشیطان لیجری من ابن ادم

(بخار الانوار/ ۲۰۶ / ۲۲۱)

پیغمبر اسلام نے فرمایا: ابليس خدا کا دشمن ہے۔

قال امیر المؤمنین: وحدّه ابليس وعدا وته

(نحو البالانہ خطبہ/ ۱)

امیر المؤمنین نے فرمایا: اور ابليس اور اس کی عداوت سے ہوشیار رہو۔

قال امیر المؤمنین: من ترددَ فِي الرِّيبِ وَ طَنَتْهُ

سنابک الشیاطین

(نحو البالانہ حکمت/ ۳۰)

امیر المؤمنین نے فرمایا: جو شخص حق و باطل کے درمیان حیران و سرگردان ہو اس کو شیاطین کے سُم پامال کر دیتے ہیں۔

قال امیر المؤمنین: فانَّمَا مصيَّدَةُ ابليس العظيمِ
وَ مَكَيْدَتَهُ الْكَبْرَى، السَّمُومُ الْقَاتِلَهُ.

(نحو البالانہ خطبہ/ ۳۳۲)

امیر المؤمنین نے فرمایا: بے شک ابليس کا جال زبردست، حلیہ و سکر

بڑا اور اس کا زہر انہٹائی قاتل ہے۔

قال رسول اللہ: ان الشیطان لیجری من ابن ادم
 مجری الدم

(شہاب الاخبار صفحہ ۳۵۹، سفیہۃ البخار جلد ۳ صفحہ ۳۳۰، حجۃ البیضاۓ جلد

۵ صفحہ ۵۲ و صفحہ ۲۷، احیاء العلوم جلد ۳ صفحہ ۳۲، بخار الانوار جلد ۲۰

صفحہ ۲۶۸، جامع التحادیات جلد ۱ صفحہ ۱۸۲)

پیغمبر اسلام نے فرمایا: شیطان (نفسی خواہشات اور رحیوانی شہوات) آدمی کے بدن میں اسی طرح گردش میں ہے جیسے بدن میں خون گردش کرتا ہے۔

قال رسول اللہ: لولا ان الشیاطین يحومون على
قلوب بني ادم لنظروا الى ملکوت السّموات
والارض

(جامع التحادیات جلد ۱ صفحہ ۳۲۳، بخار الانوار جلد ۲۰ صفحہ ۳۳۲، حجۃ البیضاۓ

جلد ۵ صفحہ ۱۶۱ و ۲۶۱، احیاء العلوم جلد ۳ صفحہ ۱۹، بخار جلد ۲۷ صفحہ ۵۹)

پیغمبر اسلام نے فرمایا: اگر شیاطین (شہوتیں اور نفسی خواہشات) آدمی کے دل کو اپنے گھیرے میں نہ لے لیتے تو انسان آسمان اور زمین کے ملکوت کے باطن کا ناظراہ کر سکتا ہے۔

عن النبی: علیٰ کل سبیل منها شیطان یدعوا الیه

(جامع التحادیات جلد ۱ صفحہ ۱۸۳)

نبی اکرمؐ نے فرمایا: ہر راستہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور آدمی کو اپنی طرف بلارہا ہے۔

عن ابی عبد اللہ: الشیطان یا مرہ بالمعاصی
(اصول کافی جلد ۳ صفحہ ۳۶۷)

امام صادقؑ نے فرمایا: شیطان، انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے۔

قال رسول اللہ: ان الشیطان قعد لابن ادم فی طرفة

(بخار الانوار جلد ۲۷ صفحہ ۴۲، مجمع البیضا، جلد ۵ صفحہ ۵۲)

احیاء العلوم جلد ۳ صفحہ ۶۰)

پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: بے شک شیطان ہر راستہ میں انسان کی تاک میں بیٹھا ہوا ہے۔

قال رسول اللہ: ما منکم من احدا لا وله شیطان
(بخار الانوار جلد ۲۹ صفحہ ۳۰، مجمع البیضا، جلد ۵ صفحہ ۳۹)

احیاء العلوم جلد ۳ صفحہ ۵۸)

پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے۔

ابليس حکایات اور قصے

امیر المؤمنینؑ نے فرمایا: ابليس اور اس کی عداوت سے ہوشیار رہو۔

۱۔ شیطان کی رو میں کتاب (خودنمائی)

ایک عالم دین شیطانی حیلہ بہانوں، وسوسوں اور اس کے مکروہ فریب کو آشکار کرنے کے لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کتاب مرتب کر رہے تھے۔ اسی زمانہ میں ایک نیک اور متفقی شخص نے شیطان کو خواب میں دیکھا تو کہا اے ملعون قلان عالم دین تجھے رسوا کر کے رہیں گے کیونکہ وہ تیرے مکروہ فریب کو ظاہر و آشکار کرنے کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں اب تیری مکاری اور عیاری لوگوں کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ شیطان نے مذاق اڑاتے ہوئے ہنس کر جواب دیا کہ یہ کتاب ہر وہ شخص خود میرے کہنے پر لکھ رہا ہے۔ اس نیک آدمی نے پوچھا: وہ کیسے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ شیطان نے کہا ممکن کیوں نہیں ہے میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم تو بڑے عالم ہو لہذا میرے خلاف کتاب لکھو اور اس بہانہ سے اپنے علمی ذخیرہ کو عام کرو۔ وہ بیچارہ سمجھہ ہی نہیں پایا اس نے اپنی کتاب کا نام ”شیطان کا جواب“ رکھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے خود اس کا نفس، علم کا مظاہرہ، دکھا اور خود پسندی اور خود غرضی مضمرا ہے۔ ۱

۲۔ شکار اور شکاری: (غفلت)

علامہ سید محمد حسین حسینی تہرانی کتاب ”لب الباب در سیر و سلوک اولی الالباب“ میں نقل کرتے ہیں کہ حاج امام قلی خوجانی جو مرحوم سید قریش قزوینی سے

۳۔ حضرت مکھیٰ کی شیطان سے ملاقات: (شکم پری)

ایک دن شیطان اپنے ہاتھوں میں زنجیر اور رتیاں لیے ہوئے حضرت مکھیٰ پغیر کے سامنے ظاہر ہوا،
جناب مکھیٰ نے پوچھا: اے ابليس تیرے ہاتھوں میں یہ رتیاں کیسی ہیں؟
شیطان نے کہا: یہ رتیاں وہ گوناگوں خواہشات ہیں جو آدمی کے اندر میں نے پائے ہیں۔

جناب مکھیٰ نے پوچھا: ان میں سے کوئی ایک میرے لیے بھی ہے؟
ابليس نے کہا: ہاں، جس وقت آپ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں تو بھاری پین پیدا ہو جاتا ہے اور نماز، مناجات اور ذکر خدا میں پہلے جیسی رغبت باقی نہیں رہتی۔

حضرت مکھیٰ نے کہا: خدا کی قسم اس کے بعد میں کبھی بھر پیٹ کھانا نہ کھاؤں گا۔

ابليس نے کہا: خدا کی قسم اس کے بعد میں کبھی سچ نہ بولوں گا اور نہ ہی کسی مسلمان کو نصیحت کروں گا۔

۱۔ محسن بر قی باب ۷ صفحہ ۳۳۹، بخار الانوار جلد ۲۳ صفحہ ۳۳۵، سفیہۃ الحمار جلد ا صفحہ ۱۰۳، ماذہ آکل، بخار الانوار جلد ۲۰ صفحہ ۲۱۲، منہاج العابدین، امام غزالی صفحہ ۷۸

اخلاقیات اور معارف الہیہ کا درس لے رہے تھے کہتے ہیں جب میرا بڑھا پا شروع ہوا تو ایک دین میں نے خود کو شیطان کے ساتھ ایک بلند و بالا پہاڑی پر دیکھا میں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور خوش آمدانہ انداز میں انتہا کی کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھ پر حرم کرو اور ہو سکے تو مجھے اپنے شر سے معاف رکھو۔ شیطان نے کہا اور دیکھو جب میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی کھائی نظر آئی جس کی گہرائی دیکھ کر خوف و دہشت سے میں دنگ رہ گیا۔ شیطان نے کہا: میرے دل میں رحم، مرّوت اور محبت وغیرہ کا گذر نہیں ہے اگر تم میں چنگل میں پھنس گئے تو تمہاری جگہ اس کھائی کی تہہ ہو گی اور تمہیں میں اس میں اس طرح پھینکوں گا کہ تمہار جوڑ جوڑ جدا ہو جائے گا اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

من اعتصم بالله لم يضره شیطان.

جو شخص الہی ریسمان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اس کا شیطان کچھ نہیں بکار سکتا۔ ۲

و اغوثاہ بک یا اللہ من عدو قد استکلب علی خدا! اس قسم کھائے ہوئے دشمن، شیطان لعین سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے گھروالے یہ سگ صفت درندہ بھونک بھونک کر میرے اوپر حملہ آؤ رہے میری مدد کر۔ ۳

۱۔ رسالہ لب الاباب ص ۶۷

۲۔ غر راحم جلد ۵ صفحہ ۲۱۳

۲۔ ابليس سے مناظرہ: (فحشاء و بدکاری)

ایک اللہ والے صاحب کرامت بزرگ عالم دین نے ایک دن ابليس کو دیکھا۔ تو اس سے کہا اے ملعون تو نے آدم کو بوجہ کیوں نہیں کیا؟

ابليس نے جواب دیا: چونکہ میں روشن آگ سے بنا تھا اور آدم کو تیرہ و تار خاک سے بنایا گیا تھا لہذا مجھے انھیں بوجہ کرتے ہوئے بے عزتی محسوس ہوئی۔

عالم دین نے کہا: اے ملعون! تو ایک فاسق و فاجر کو ایک فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کے لیے ایک جگہ جمع کرتا ہے اور پھر گھر کے دروازہ پر بیٹھ کر انھیں زنا جیسے شرم آؤ اور برے فعل پر آمادہ کرتا ہے۔ اس سے تجھے شرم نہیں آتی ہے لیکن آدم صفائی اللہ کو بوجہ جو ایک اچھی فطرت اور زیبای سرشت ہے اسے نجام دیتے ہوئے شرم آتی، وائے ہو تجھ پر اس ذلت، پستی اور خواری کی وجہ سے۔

ابليس نے اس عالم دین کی ان باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور کہا کہ: اس خدا کی قسم جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا ہے اب تک کسی نے مجھے اس طرح ذلیل اور شرم سار نہیں کیا ہے جیسا تم نے کیا ہے۔ پھر اس نے ایک آہ چیخی اور زار قطار رونے لگا اور اس عالم کی ننگا ہوں سے غائب ہو گیا۔

۵۔ شیطانی حیله: (دین میں بدعت)

قدیم زمانہ میں ایک شخص اس بات کے لیے کوشش تھا کہ دنیا کو حلال طریقہ سے کامے اور دولت مند بن جائے لیکن یہ نہ ہو سکا تو پھر وہ حرام کے چکر میں پڑ گیا تاکہ اس طریقہ سے اپنی دنیا سنوار لے لیکن وہ بھی ممکن نہ ہوا۔

ایک دن شیطان ملعون اس شخص کی نظروں کے سامنے ظاہر ہوا اور اس سے کہا:

تم نے حلال راستہ سے دولت مند بننا چاہا جو نہ ہو سکا پھر حرام راستہ سے کوشش کی وہ بھی ممکن نہ ہوا کیا میں تمہیں ایسی ترکیب بتاؤں جس سے تمہارا مال زیادہ ہو جائے اور دنیوی چک دمک میں اضافہ ہو اور پیروی کرنے والے افراد کی تعداد بڑھ جائے۔

اس نے جواب دیا: ہاں میں اس کے لیے میتاں ہوں۔ شیطان نے کہا ایک نیا دین بناؤ اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو۔ اس شخص نے شیطان کے مشورہ پر عمل کیا ابھی تھوڑا ہی عرصہ گذراتھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور اس راستہ سے اسے جو کچھ چاہیے تحمل کیا۔

لیکن کچھ دنوں کے بعد انعام کے سلسلہ میں جب اس نے غور و فکر سے کام لیا تو پریشان ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر ڈالا تھوڑی سی دولت کے لیے اس نے لوگوں کو حق سے گراہ کر کے انھیں اپنے پیچھے لگایا اب روز قیامت خدا کو کیا جواب دے گا۔ یہ سوچ کروہ بہت شرمسار ہوا اور خود کلامی کرنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری توبہ قبول ہوگی ہاں بس ایک ہی صورت دکھائی دیتی ہے کہ جن لوگوں کو گراہ کیا ہے انھیں حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ دوسرے دن وہ شخص اپنے پیروکاروں اور روستوں کے پاس آیا اور انھیں بتایا کہ اب تک میں نے تم سے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط تھا اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی یہ دین اور آئین شیطانی تھا جسے میں نے خود اختراع (ایجاد) کیا تھا۔ لوگوں نے جب یہ سنات تو بگزگز کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تمہاری پہلی والی باتیں صحیح تھیں اب تم شک و تردد کا شکار ہو کر گراہ ہو گئے ہو ان لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی گراہی پر باقی رہے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا کہ جب تک خداوند عالم میری توبہ قبول نہ کرے گا میں ان زنجیروں کو اپنے سے جدا نہ کروں گا۔ خداوند عالم نے اس زمانہ کے پیغمبر پر وحی نازل کی کہ اس شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ

چاہے تم مجھے اتنا پکارو کہ تمہارے گلے کی رگیں پھٹ جائیں اور بدن کا ایک ایک جوڑ علاحدہ ہو جائے قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی کہ میں تیری دعا اور توبہ قبول نہ کروں گا مگر یہ کہ جو لوگ تیری وجہ سے گمراہ ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انھیں زندہ کر اور اپنے فلسط دعوے کی حقیقت سے انھیں آگاہ کرتا کہ وہ تیرے خود ساختہ دین سے راہ حق کی طرف پلٹ جائیں اور اے بدجنت یہ کام تیرے لیے محال اور ناممکن ہے۔

خدار سیدہ علماء فرماتے ہیں: بھائیو!

ہوشیار رہو کہیں شیطان اور اس کے حوالی موالی آدمی تمہیں ان دلائل کے ذریعے سے جو باطل ہیں تمہیں تمہارے دین و مذہب سے فریب دے کے بہکانہ دیں۔

۶۔ حضرت موسیٰ سے شیطان کی ملاقات: (خود پسندی)

ایک دن حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے کہ رنگ برلنگی اونچی ٹوپی (جو شہوات، دینوی زینتیں، فاسد عقاید اور باطل ادیان وغیرہ کی علامت تھی) پہنے ہوئے اچانک شیطان ظاہر ہوا اور آپ کے پاس آیا۔ قریب آ کر اس نے ٹوپی اتار دی اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سلام کیا۔

جناب موسیٰ نے پوچھا : تم کون ہو؟

اس نے جواب دیا : میں شیطان ہوں۔

جناب موسیٰ نے فرمایا : تو ہی شیطان ہے خدا تجھے غارت کرے یہاں کیوں آیا ہے؟

شیطان نے کہا : خدا کے نزدیک آپ کی جو منزلت و مقام ہے اس کے پیش نظر آپ کی تعظیم کے لیے حاضر ہوں۔

جناب موسیٰ نے پوچھا : یہ ٹوپی کیسی ہے؟

اس نے کہا : میں اسی ٹوپی کے ذریعہ آدمی کا دل جیت لیتا ہوں۔

جناب موسیٰ نے پوچھا : تو کس گناہ کی وجہ سے آدمی پر غلبہ پاتا ہے۔

شیطان نے کہا : جب آدمی اپنے آپ سے راضی ہو جائے، خود کو پسند کر لے اور مطمئن ہو جائے اور اپنے نیک کاموں کو زیادہ اور گناہوں کو بہت حفیر جانے۔

۷۔ شیطانی درخت: (خلوص)

بنی اسرائیل میں ایک ایسا عبد تھا جس کا پورا وقت عبادت میں گذرتا تھا ایک دن اسے کسی نے بتایا کہ فلاں مقام پر ایک درخت ہے جسے لوگ پوچھتے ہیں، اس عبد کی دینی غیرت کو جوش آیا اور اس نے خدا کی خوشنودی کے لیے کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کو کاٹ کر پھینکنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔

راستہ میں شیطان بوڑھے شخص کی شکل میں انتہائی غصہ میں اس کے سامنے ظاہر ہوا اور اس سے پوچھا: کیا ارادہ ہے؟

عبد نے کہا: میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ غیر خدا کی پرستش نہ کی جائے۔

شیطان نے کہا: اگر خدا اس درخت کو کٹوانا چاہتا تو کسی پیغمبر کو اس کام کے لیے بھیجا تම اس فضول کام کے لیے اپنی عبادت کو کیوں چھوڑ کر آ گئے ہو اور وہ کام کرنے جا رہے ہو جو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور یہ کام تمہارا ہے بھی نہیں۔ شیطان اپنی ان باتوں سے عبد کے دل میں وسوسہ کرتا رہتا تاکہ اسے اس کام سے روک دے لیکن عبد نے اس کی باتوں پر کافی نہیں دھرا اور آخر کار بات بڑھ گئی اور نوبت دست و گریاں کی آگئی تھوڑی زد و خورد کے بعد عبد نے شیطان کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا، شیطان جو عبد کے چنگل میں پھنس گیا تھا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک فائدہ کی بات بتاؤں اگر وہ پسند نہ آئے تو پھر جو دل میں آئے کرنا۔

عبدنے کہا۔ بتاؤ وہ کیا بات ہے۔

شیطان نے کہا: اگر اس درخت کو کائے کا ارادہ چھوڑ دو گے تو میں ہرات تمہیں دو سکے دیا کروں گا جو تم اپنی طرف سے فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرنا اس طرح لوگوں کو فائدہ بھی پہوچنے گا اور تمہیں ثواب بھی مل جائے گا کیونکہ پتہ نہیں تمہیں اس درخت کے کائے کا کوئی ثواب ملے گا یا نہیں؟

عبدنے کہا: چونکہ تمہاری یہ بات میرے ثواب اور فقراء کے فائدے سے تعلق رکھتی ہے لہذا مانے لیتا ہوں۔ اس نے شیطان کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس رات کو شیطان نے اسے دو سکے دیئے وہ بہت خوش ہوا اس نے وہ سکے فقیروں میں بانٹ دیئے وہ سری رات اس نے بہت انتظار کیا لیکن سکے اس تک نہیں پہوچنے دوسرے دن اس نے پھر کلبہڑی اٹھائی اور درخت کائے کے لیے چل دیا، راستے میں پھر پہلے دن کی طرح شیطان سے ملاقات ہوئی، بحث و مباحثہ کے بعد پھر نوبت ہاتھا پائی تک آگئی اس مرتبہ شیطان نے عبد کو زمین پر چینخ دیا اور اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اسے حملکی دی کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ابھی مارڈالوں گا عبد نے اس سے چھوڑ دینے کی اتماس کی، شیطان نے اسے چھوڑ بھی دیا۔

عبدنے شیطان سے پوچھا: اس دن میرے ہاتھوں میں تم ایک چڑیا کی طرح کیسے پھنس گئے تھے اور آج تم نے مجھے زمین پر گرا دیا اور میرے سینہ پر سوار ہو گئے۔

شیطان نے کہا: چونکہ اس دن تم صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے

لیے نکلے تھے اور تمہاری نیت پاک اور خالص تھی اور تم دل سے یہ چاہتے تھے کہ خدا کے مقابلہ میں اس درخت کی عبادت نہ ہو اس لیے مجھ پر بھاری پڑ گئے تھے لیکن آج تم خدا کی خوشنودی کے بجائے سکوں کے لیے ناراض ہوئے ہو اور درخت کائے جا رہے ہو، چونکہ اس دن تمہاری نیت خالص تھی لہذا خدا نے تمہاری مدد کی اور جو شخص خالص نیت سے کوئی عمل انجام دیتا ہے میں اس پر قابو نہیں پاتا لیکن آج تمہارا کام نفسانی خواہشات کے لیے تھا اسی لیے ذیل خوار ہو گئے۔

۸۔ شیطان کی درخواست: (وسوہ)

جب شیطان کو بارگاہ الہی سے نکلا گیا تو اس نے خدا سے دعا کی کہ: معبدو! میری چھ ہزار سال کی عبادتوں کا کیا حشر ہو گا؟ اس سے پوچھا گیا! تجھے اسکے بدله میں جو چاہیے مل جائے گا۔

شیطان نے کہا: مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ اس سے کہا گیا: تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی گئی۔ دوبارہ شیطان نے درخواست کی کہ مجھے اتنی قدرت بھی دے دے کہ آدمیوں کے دل میں وسوہ کر سکوں، خدا کی حکمت و مصلحت کی بناء پر اسے وہ اختیار بھی دے دیا گیا۔

جب ابوالبشر آدم کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت روئے اور عرض کی:

پروردگارا! اب جبکہ تو نے شیطان کو اتنی مہلت اور ایسی قدرت دے دی تو
میری اولاد ایسے دشمن کے سامنے بے چاری ہو گئی اب اس کا انجام کیا ہوگا؟
آواز آئی اے آدم! ہر شیطان کے مقابلہ میں ایک فرشتہ پیدا کروں گا جو
شیطانی وسوسوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اسے نیکی اور پاکیزگی کی رغبت دلائے
گا۔

پغمبر اسلام فرماتے ہیں:

”ہر مومن کے دل میں دوکان ہوتے ہیں ایک کان میں فرشتہ پھونکتا
ہے اور دوسرے کان میں وسوس خناس پھونکتا ہے اور خداوند عالم
فرشتہ کے ذریعہ مومن کی حفاظت اور مدد کرتا ہے۔“ ۱

۹-حضرت عیسیٰ کا ابلیس سے مناظرہ: (خودکشی)

ایک دن جناب عیسیٰ بن مریم ایک بلندی پر کھڑے ہوئے تھے کہ ابلیس
ظاہر ہوا اور اس نے ان سے کہا: اے روح اللہ! کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ خدا جو
چاہتا ہے کہ کر سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا: ہاں خدا جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔
شیطان نے کہا: اگر آپ اس بلندی سے نیچے گر جائیں تو خدا آپ کو بچا سکتا
ہے؟ فرمایا: ہاں۔

شیطان نے کہا: اگر آپ نیچے ہیں تو خود کو اس بلندی سے نیچے گردی بھجئے تاکہ
یہ معلوم ہو جائے کہ خدا بچاتا ہے یا نہیں؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے،

۱- تفسیر مشنون جلد ۲ صفحہ ۲۷۵، تفسیر الحمیز ان جلد ۲۰ صفحہ ۵۵۷ (سورہ ناس)

اس سے فرمایا: اے ملعون! یہ مناسب نہیں ہے کہ بندہ خدا کا امتحان لے بلکہ
حق تو یہ ہے کہ خدا بندہ کی آزمائش کرے اور یہ بات بالکل غلط ہے جو تو کہہ رہا
ہے۔ میں اپنے آپ کو صرف تیرے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کر سکتا
ہے یا نہیں کر سکتا اس بلندی سے کوچھ جاؤں لیکن اسی خدا نے جس نے مجھے پیدا کیا
ہے اس نے آدمیوں کو اس کام سے روکا ہے کیونکہ یہ خودکشی کا عمل ہے اور حرام
ہے البتہ اگر بغیر کسی قصد و ارادہ کے اگر گر جاؤں اور خدا زندہ بھی رکھنا چاہے تو وہ
صحیح سالم رکھ سکتا ہے۔ ۲

۱۰-حضرت عیسیٰ کی شیطان سے گفتگو: (قدرت خدا)

ایک دن شیطان حضرت عیسیٰ کے پاس آیا اور ان سے کہا: کیا تمہارا
پروردگار پوری زمین کو ایک انڈہ میں اس طرح کہنا انڈہ بڑا ہونے پائے اور نہ
زمیں چھوٹی ہونے پائے داخل کر سکتا ہے؟

حضرت عیسیٰ سمجھ گئے کہ شیطان کی یہ بات مغالطہ اور باطل قیاس کی بنیاد پر
ہے آپ نے جواب میں فرمایا: لعنت ہو تجھ پر یقیناً خدا کو ناتوانی کی صفت کے
ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، خدا کے علاوہ کون
طااقت ورہے جو زمین کو لطیف، نرم و نازک اور انڈہ کو بڑا کر سکے؟ ۳

۱- تفسیر مشنون جلد ۹ صفحہ ۳۱۸، بخار جلد ۲۰ صفحہ ۲۵۲، کشکول شیخ بہائی صفحہ ۲۳۱، حیواۃ

القلوب جلد ۱ صفحہ ۳۰۲، استعاظہ صفحہ ۱۰۶۔

۲- توحید شیخ صدقہ باب ۹ صفحہ ۱۳۰-۱۲۷۔

حضرت امیر المؤمنینؑ ایک روایت میں فرماتے ہیں:
یہ ایسا غلط سوال ہے جو ممکن ہی نہیں ہے۔۱

امام رضا علیہ السلام ایسے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ہاں خدا اس طرح کی طاقت رکھتا ہے جو سے انڈہ سے بھی چھوٹی چیز میں قرار دے جس طریقہ سے تمہاری آنکھوں کی پتلی میں کہ جوانندہ سے بھی چھوٹی چیز ہے قرار دیا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم جب بھی آنکھ کھولو گے تو زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔۲

۱۱۔ عبد اللہ بن حظله اور شیطان: (بے نیازی، غصہ پر قابو)

ایک دن شیطان عبد اللہ بن حظله کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے حظله کے میئے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسی بات بتاؤں جسے تم ہمیشہ یاد رکھو اور اس پر عمل کرو؟

حظله نے کہا: مجھے تیری کسی بات اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔

شیطان نے کہا: میری بات سن تو لو اگر اچھی لگے تو مان لینا اور اگر بری معلوم ہو تو توجہ نہ کرنا۔

اس کے بعد شیطان نے کہا: اے حظله کے میئے تم کبھی خدا کے علاوہ کسی سے انتہائی رغبت سے کوئی چیز نہ مانگنا، غصہ کے وقت بہت ہوشیار رہنا (کہ اپنی

حدسے آگے نہ بڑھ جاؤ) ابنیں ملعون نے انھیں یہ نصیحتیں کیں اور زنگا ہوں سے غائب ہو گیا۔۳

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

ظفر الشیطان بمن ملکہ غضبه

جو شخص اپنے غصہ پر قابو نہ رکھے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔۴

۱۲۔ حضرت نوحؐ کی شیطان سے ملاقات: (غضہ، فیصلہ، نامہ)

حضرت نوحؐ کی بد دعا سے ان کی قوم کے غرق ہونے کے بعد شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے کہا: چونکہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے لہذا میں اس کا بدله چکانا چاہتا ہوں، جناب نوحؐ نے فرمایا: میرے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ تیری گردن پر میرا حق ہو (یعنی میں نے تجھ پر احسان کیا ہو)؟ اب بتاؤ وہ کون ساحق ہے۔ شیطان نے کیا: آپ نے اپنی قوم کے بارہ میں بد دعا کی اور خداوند عالم نے انھیں غرق کر دیا۔ اب کوئی ایسا باقی نہیں بچا جسے میں گراہ کر سکوں اب مجھے فرصت ہی فرصة اور آرام ہی آرام ہے اب دوسری صدی میں دوسری نسل آئے گی تب میرا کاروبار شروع ہو گا۔

جناب نوحؐ نے فرمایا: تو کس طرح میرے احسان کا بدله اتنا رنا چاہتا ہے؟

جلد بازی کی صفت ہوتی ہے وہ بہت جلد میرے جال میں پھنس جاتا ہے اور میرے ہاتھوں میں وہ گیند کی طرح قرار پاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص میں ایک ساتھ یہ ساری صفتیں مجھ ہو جائیں تو ہم اس کا ”شیطان مرید“ نام رکھتے ہیں لہذا جو شخص خیرات اور نیک کاموں سے دور ہو وہ میرا مطیع فرمان بردار ہے۔

حضرت نوحؐ نے پوچھا: جس بڑے حق کا اپنی گردن پر ہونا بتا رہے تھے وہ کیا ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا: آپ نے بدعا کر کے ایک گھری میں پوری قوم کو جہنم میں پہنچا دیا اور مجھے سکون بخشنا اگر آپ نے بدعا نہ کی ہوتی تو ایک مدت تک مجھے ان کو گراہ کرنے کی زحمت گوارہ کرنا پڑتی۔۔۔

امام زین العابدین علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں:

اللَّهُمَّ شَرِّ مَصَانِيدِ الشَّيْطَانِ

پروردگار! ہم کو شیطانی جال کے شر سے محفوظ رکھ۔

۱۲۔ شیطان کی نصیحتیں: (غور، حسد اور لالج)

جب حضرت نوحؐ طوفان کے بعد کشتی سے نیچے اترے تو ان کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ کا احسان میری گردن پر ہے کیونکہ آپ نے ان بدکاروں کے لیے بدعا کر کے مجھے گراہ کرنے کی زحمت سے بچا لیا لہذا میں اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آپ کو

۱۔ بخار الانوار جلد ۲۰ صفحہ ۲۵۰، میزان الحکمت جلد ۵ صفحہ ۹۳۔

۲۔ صحیفہ سجادہ دعاء ۵

شیطان نے بقول خود نوحؐ کا جو حق اس کی گردن پر تھا اسے ادا کرنے کے لیے چند جملے کہے:

اے نوحؐ! تم تین مقامات پر مجھ سے غافل نہ ہونا اس لیے کہ ان تین جگہوں پر دوسرے مقامات کی بہبیت میں آدمیوں سے زیادہ قریب رہتا ہوں۔

- ۱۔ جب تم غصہ کے عالم میں ہو۔
- ۲۔ جب دوآدمیوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو۔
- ۳۔ جب تم کسی نامحرم عورت کے ساتھ تہائی میں ہو اور وہاں پر کوئی تیسرانہ ہو۔۔۔

۱۳۔ شیطان مرید: (بڑے صفات)

دوسری روایت میں ہے کہ جب قوم نوحؐ غرق ہو گئی تو شیطان حضرت نوحؐ کے پاس آیا اور کہا: اے نوحؐ! مجھ پر تمہارا بڑا احسان ہے میں اس کا بدلہ چکانے آیا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اطمینان رکھوں میں تم سے جھوٹ بولوں گا اور نہ ہی خیانت کروں گا۔

حضرت نوحؐ کو شیطان کی باتوں پر بڑا غصہ آیا اور وہ اس کی باتیں سننے کو تیار نہ ہوئے لیکن خداوند عالم کی طرف سے نوحؐ پر وحی ہوئی کہ تم اس کی بات سن لو میں اس کی زبان پر صحیح باتیں جاری کروں گا۔ اس وقت جناب نوحؐ نے فرمایا: اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ شیطان نے کہا: جس آدمی میں کنجوی، لالج، حسد یا

۱۔ خصال باب ثلاثہ ۱۳۰، میزان الحکمت جلد ۵ صفحہ ۹۳، بخار الانوار جلد ۲۰ صفحہ ۲۲۲۔

نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اصحاب کے دلوں کو اپنے قبضہ میں کر لوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ اور جسم آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے آپ نے اسے بہت پھٹکارا اور کہا اے خدا کے دشمن اس کشتی سے نکل تو لعنتی اور رجیم ہے۔ شیطان نے کہا: ارے ذرا میری بات تو سن لو۔ آپ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا: چند صفتیں ہیں جن کے ذریعہ میں انسانوں کو ہلاک کرتا ہوں جن میں سے ایک حسد کی صفت ہے آدم سے حد کے جرم میں مجھے بارگاہ الٰہی سے نکنا پڑا اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے میری گردن میں پڑ گیا، دوسری بڑی صفت حرص والا چل ہے جس کی وجہ سے آدم جنت سے نکالے گئے اور میری مراد برآئی۔ ۱۔

۱۶۔ قبر آدم پر سجدہ: (غورو)

ایک دن شیطان حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور ان سے کہا: آپ خدا کے برگزیدہ بننے اور اس کے باعظمت رسول ہیں اور میں خدا کی ایک مخلوق ہوں جس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اب میں اس سے توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا آپ خدا سے میری سفارش کر دیں گے۔ حضرت نے اس کی درخواست مان لی اور خداوند عالم سے سفارش کی۔ خدا نے جناب موسیٰ سے فرمایا: اے موسیٰ میں اس کی بات اس شرط پر مانوں گا کہ وہ آدم کی قبر پر سجدہ کر لے۔

جناب موسیٰ نے خدا کا پیغام شیطان تک پھو نچایا۔ شیطان نے غور کے

۱۔ مجموعہ خصال جلد ۵ ص ۵۸، احیاء العلوم جلد ۳ ص ۲۷۔

چند باتیں سکھاتا ہوں۔

۱۔ پہلے یہ کہی غور نہ کیجیے گا کیونکہ یہی غور ہے جس کی وجہ سے میں نے

آدم کو جدہ نہیں کیا اور بارگاہ الٰہی سے نکالا گیا۔

۲۔ دوسرے یہ کہ کبھی لاچ میں نہ پڑیے گا کیونکہ پوری جنت اور اس کی نعمتیں آدم کے لیے حلال اور مباح تھیں صرف ایک درخت کے پھل سے روکا گیا تھا لیکن لاچ اور حرص کا برابر ہو کہ اس نے انھیں اس کے کھانے پر آمادہ کر دیا۔

۳۔ تیسرا کہی حسد کے قریب نہ جائیے گا کیونکہ اسی بڑی صفت نے آدم کی اولاد کو اپنے بھائی کا قاتل بنادیا۔

ان باتوں کے بعد حضرت نوح نے شیطان سے پوچھا یہ بتاؤ دوسرے اوقات کی بہ نسبت کس وقت زیادہ تمہیں آدمیوں پر قدرت اور غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا: غصہ کے وقت۔ ۱۔

۱۵۔ شیطان کا مقصد: (شیطانی دل)

جب جناب نوح کشتی کی تعمیر کا کام مکتمل کر چکے تو ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں لانے لگے اس کام کے نیچے آپ نے کشتی کے ایک کونہ میں ایک بوڑھے کو بیٹھا ہوا دیکھا اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس بوڑھے

۱۔ اقتباس از مجموعہ خصال جلد ۱ صفحہ ۵۰ حدیث ۲۱، میزان الحکمت جلد ۵ صفحہ ۹۲، بخارا

لانوار جلد ۲۰، صفحہ ۲۲۲ و صفحہ ۲۵۱

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔
 مرارة الدنیا حلاوة الآخرة و حلاوة الدنيا مرارة
 الآخرة
 دنیا کی تلخی و سختی آخرت کی مٹھاس ہے اور دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی
 کا باعث ہے۔۱

۱۸۔ شیطان اور انسان کی عمر: (چالیس سال)

روایت میں ہے کہ جب انسان چالیس سال کا ہو جائے اور اپنے گناہوں اور خطاؤں سے توبہ نہ کرے اور اس کی خوبی اور اچھائی اس کی بدی اور شر پر غالب نہ آئے تو شیطان اس کے چہرہ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کی پیشانی چوم کر کہتا ہے: میں اس چہرہ اور صورت پر فدا جو کبھی فلاح نہ پائے گا۔^۲
 پیغمبر اسلام فرماتے ہیں: جس شخص کی عمر چالیس سال ہو جائے اور اس کی نیکی اس کی برا نیوں پر غلبہ نہ پائے تو اسے خود کو آتش جہنم کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔^۳

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: جب کوئی بندہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو

۱۔ فتح البلاغہ حکمت / ۲۲۳، غر راحم، حرف میم و ح
 ۲۔ مجید البیضا، جلد ۵ ص ۵۸، احیاء العلوم جلد ۳ ص ۲۷، بخاری جلد ۲۰ ص ۲۸۰ و ۲۸۱
 ۳۔ مشکواۃ الانوار ص ۱۷۰، میزان الحکمت جلد ۶ ص ۵۲۲

ساتھ جواب دیا کہ جب آدم زندہ تھے تو میں نے انھیں سجدہ نہ کیا اب جبکہ وہ مرچکے ہیں میں جا کر ان کی قبر پر سجدہ کرو؟ یہ ناممکن ہے۔۱
 امیر المؤمنین علیہ السلام شیطان کی صفات کے بارہ میں فرماتے ہیں:
 فی صفة الشیطان فافتخر علی آدم بخلقه و
 تعصّب عليه لاصله

ابليس نے اپنی خلقت کی وجہ سے آدم پر فخر کیا اور اپنی اصل کی بناء پر تعصّب کا شکار ہوا۔ (اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں)۲

۱۹۔ حضرت عیسیٰ اور پتھر: (تن آسانی)

ایک دن حضرت عیسیٰ اپنی تحکمن دور کرنے کے لیے لیٹے تو ایک پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا اور آرام کرنے لگے، اتنے میں اس طرف سے شیطان کا گذر ہوا اس نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا: آخ رکار آپ بھی دنیا کی طرف مائل ہو گئے۔
 جناب عیسیٰ نے جیسے ہی یہ بات سنی سر کے نیچے سے پتھر نکال اسے کھینچ کر مارا اور کہا: یہ پتھر بھی پوری دنیا کے ساتھ تیرا رہے۔ (یعنی اگر یہ پتھر بھی آسامیش کا سامان ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔) تن آسانی اور راحت طلبی بھی خود پرستی اور رخود خواہی، ذخیرہ اندوزی، تشریفات وغیرہ کی طرح برے اثرات رکھتی ہے۔^۳

۱۔ مجید البیضا، جلد ۵ ص ۵۸، احیاء العلوم جلد ۳ ص ۲۷، بخاری جلد ۲۰ ص ۲۸۰ و ۲۸۱

۲۔ فتح البلاغہ، فیض الاسلام خطبہ / ۲۳۲ ص ۲۶۷، میزان الحکمت جلد ۷ ص ۲۱۵

۳۔ مجید البیضا، جلد ۵ ص ۲۲، احیاء العلوم جلد ۳ ص ۳۰، کیمیائے سعادت جلد ۲ ص ۳۲۳

ایک عالم سے پوچھا گیا آیار و ایات میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ شیطان بھی انسان یا جانور کی طرح سوتا ہے یا نہیں؟ وہ عالم یہ سوال سن کر مسکرائے اور بہت اچھا جواب دیا: اگر شیطان سوتا ہوتا تو ہمیں تھوڑا بہت سکون مل جاتا، ہم سور ہے یہی وہ جاگ رہا ہے اسے نیند کہاں وہ تو ہر وقت ہماری تاک میں رہتا ہے۔^۱

آیت اللہ شہید دستغیب کتاب کے دوسرے حصہ میں فرماتے ہیں:

سوتے وقت وضوء کر لیا کرو تمہارے وضوء کا نور شیطان کو تم سے دور رکھے گا۔^۲

سونے سے پہلے وضو و طہارت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان برے خواب سے محفوظ رہتا ہے۔

۲۰۔ شیخ مرتضیٰ انصاریٰ اور شیطان: (خمس)

شیخ مرتضیٰ انصاریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد کہتا ہے: جس زمانہ میں نجف میں شیخ انصاریٰ سے میں پڑھ رہا تھا اسی زمانہ میں ایک رات خواب میں شیطان کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں رنگ برلنگی رتیاں تھیں، میں نے شیطان سے پوچھا یہ کیسی رتیاں ہیں اس نے جواب دیا میں ان رتیوں کو لوگوں کے لگے میں ڈال کر کھینچتا ہوں اور اپنے جال میں پھنسا لیتا ہوں، کل میں نے ان ہی مضبوط رتیوں میں سے ایک سے شیخ انصاریٰ کی گردن پکڑتی تھی اور انھیں کمرہ سے نکال

^۱، ^۲ استعاذه ص ۵۸، ج ۷، ص ۲۱، بخار الانوار جلد ۲۰ ص ۳۱۰

اس سے کہا جاتا ہے اپنا خیال رکھنا کیونکہ اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہو گا۔^۱ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ہر آدمی چالیس سال تک اپنے گناہوں سے نجات پانے کا راستہ رکھتا ہے جب اس ان کو پہلو نجات ہے تو خداوند عالم اس پر مامور فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کے چھوٹے بڑے اعمال و کردار سے ہوشیار رہنا اور اسے لکھنا۔^۲

پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

جب انسان کی عمر چالیس سال سے اوپر ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ہر شخص سے زیادہ خدا سے ڈرے اور گناہوں سے دور رہ کر خدا کے غضب سے اپنے کو بچائے۔
قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (آل زکر / ۸-۷)

جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا اجر دیکھے گا اور جو شخص ذرہ برابر نہ ای کرے گا وہ اس کی سزا دیکھے گا۔

۱۹۔ شیطان کا سونا اور جا گنا: (باوضوسونا)

آیت اللہ شہید دستغیب شیرازیٰ اپنی کتاب "استعاذه" میں تحریر فرماتے ہیں:

^۱ خصال جلد ۲ ص ۵۲۵، میزان الحکمت جلد ۶ ص ۵۲۳

^۲ میزان الحکمت جلد ۶ ص ۵۲۲

اپنے نفس کے بارہ میں خدا سے ڈر اور اسی رستی کو اپنی طرف کھینچ لو
جس سے شیطان تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اپنا رخ آخترت کی
طرف اور اپنی تمام کوششوں کو صرف خدا کے لیے قرار دو۔^۱
احمد بن فہد حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الشیطان فرصة الظفر

شیطان فرمت ظفر (انسان پر غلبہ پانے) کو غیرمیت جانے گا۔^۲

۲۱۔ شیطان اور پہلا سکھ: (مال کی محبت)

ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

جب چاندی اور سونے کا پہلا سکھ ڈھالا گیا تو شیطان بہت خوش ہوا، اسے
اخھایا آنکھوں سے لگایا، سینہ سے بھینچا اور خوشی کا اندرہ لگایا کہ تم دونوں سکو! میری
آنکھوں کا نور ہوا اور دل کا قرار ہو، اب آدمی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے
عشق میں مبتلا ہوں گے اب مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ لوگ بت پوچھیں گے
یا نہیں، میرے لیے یہی بہت ہے کہ آدمی تم سے محبت کریں۔^۳

پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا:

ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم

۱۔ غرر الحکم جلد ۲ ص ۲۱۱، ۲۔ عدۃ الداعی ص ۳۳

۳۔ امامی شیخ صدوق مجلہ ۲۶ حدیث ۱۳، میزان الحکمت جلد ۹ ص ۲۷۹، مترک جلد ۲ ص ۳۳۶۔ بخاری الانوار جلد ۷ ص ۷۱۳۔

کر گلی کے پنج تک لا یا تھا لیکن میری محنت غارت ہو گئی شیخ نے اپنے آپ کو چھڑا
لیا اور واپس آگئے۔

خواب سے بیدار ہونے کے بعد میں اس خواب کی تعبیر کے لیے سوچ میں پڑ
گیا۔ خیال آیا کیوں نہ خود شیخ النصاریؒ سے ہی اس خواب کی تعبیر پوچھی جائے
لہذا ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب ان سے بیان کیا۔

آپؐ نے فرمایا: شیطان نے بالکل صحیح بتایا کل اس ملعون سے مجھے دھوکہ دیتا
چاہا لیکن خداوند عالم کے لطف و کرم سے میں اس کے جال میں پھنسنے سے بچ
گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ کل میرے پاس پیسے بالکل نہیں تھے اور گھر میں ایک ضرورت
پیش آگئی تھی میں نے سوچا کہ میرے پاس سہم امام کے کچھ پیسے پڑے ہوئے
ہیں ابھی ان کے خرچ کا وقت بھی نہیں ہے میں انھیں بطور قرض لے لیتا ہوں بعد
میں ادا کر دوں گا یہ سوچ کر میں نے وہ پیسے لیے اور گھر سے باہر نکلا جیسے ہی چاہا
کہ وہ چیز جس کی مجھے ضرورت تھی خریدوں، اچانک دل میں یہ بات آئی کہ کیسے
معلوم کہ یہ قرض ادا کر سکوں گا اسی فکر میں تھا کہ نہ خریدنے کا مضبوط ارادہ کر لیا
اور گھر لوٹ آیا اور پیسے کو ان کی جگہ پرواپس رکھ دیا۔^۴

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

اتق الله في نفسك و نازع الشيطان قيادك و

اصرف الى الآخرة وجهك واجعل الله جدك

۴۔ سیماںی فرزان گان جلد ۳ ص ۲۳۰، مقول از زندگانی و شخصیت شیخ، ص ۸۸ و ص ۸۹

ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جو درہم و دینار (سیم و زر) کا بندہ ہو۔^۱

دوسری روایت میں ہے کہ جب پہلا سکہ بنایا گیا تو شیطان نے اسے اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا، چوما اور کہا جو شخص تھے چاہے گا وہ حقیقت میں میرا بندہ ہو گا۔^۲

۲۲۔ شیطان اور کام: (کام اور مزدور)

ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ کشریف فرماتھے آپ نے دیکھا کہ ایک جوان، مضبوط اور پھر تیلا آدمی صح سے کام میں لگا ہوا ہے، آپ کے صحابے نے اس پر اظہار افسوس کیا اور کہا کاش یہ شخص پنی قوت و طاقت اور جوانی کو راہ خدا میں خرچ کرتا۔

آنحضرت نے فرمایا ایسی بات نہ کرو وہ کوشش میں لگا ہے تاکہ اپنے کو دوسروں کے سامنے مانگنے کی ذلت سے بچا لے اور ان کا محتاج نہ رہے، اس شخص نے اپنے اس عمل سے راہ خدا میں قدم اٹھایا ہے اگر اس کا مقصد اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنا ہوتا تو بھی اس کا یہ قدم راہ خدا میں اٹھتا۔ ہاں اگر اس کی کوشش اور محنت ماں میں اضافہ کے لیے ہوتی تاکہ اس کے ذریعہ

۱۔ میران الحکمت جلد ۸، ص ۵۰۹

۲۔ مجتبیہ صفحہ ۴، ص ۳۹۳، حیاء العلوم جلد ۳، ص ۳۹۲، کیمیائے سعادت جلد ۲، ص ۱۵۲

دوسروں پر فخر کر سکے تو یہ خیال ناپاک، نیت فاسد اور کوشش شیطانی ہوتی۔^۱ ایک دوسری روایت میں پیغمبر اسلام سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا: جو شخص حلال مال کا نے گھر سے نکل اور اپنے والدین اور بیوی بچوں کے لیے محنت کرے تو وہ شخص ایسا ہی ہے جیسے اس نے راہ خدا میں قدم اٹھایا ہو لیکن اگر کوئی صرف ذخیرہ اندوڑی کے لیے محنت کرے تو اس نے شیطان کی راہ اختیار کی ہے۔^۲

امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں:

الکاد علی عیاله من حِلَّ کالمجاهد فی سبیل الله
جو شخص اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے حلال راستے سے کوشش کرے اس کی مثال فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کی ہیں۔^۳
امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا:

حَبُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ هُو سَهْمُ الشَّيْطَانِ۔

درہم و دینار کی محبت شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔^۴

پیغمبر اسلام نے فرمایا:

وَلَا كُثْرٌ مَالَهُ إِلَّا اشْتَدَّ حِسَابُهُ وَلَا كُثْرٌ تَبْعَهُ إِلَّا
كُثْرَتْ شَيَاطِينُهُ

۱۔ مسند رک جلد ۳، ص ۱۳۰، تجویز البیضاۓ جلد ۳، ص ۲۲۲
۲۔ تفسیر المیران جلد ۲، ص ۳۰۲
۳۔ بخار الانوار جلد ۰، ص ۱۳۰

دوستوں سے کہا صدقہ دینے میں اتنی بھی کیا مشکل ہے میں ابھی گھر جاتا ہوں اور گیہوں لا کر فقراء میں بانٹے دیتا ہوں وہ شخص اس ارادہ سے گھر گیا جب اس کی بیوی کو اس کا ارادہ معلوم ہوا تو گلی چیخنے چلا نے، یہ قحط کا زمانہ ہے اپنے بیوی بچوں پر حرم نہیں آتا اگر خشک سالی طولانی ہو گئی تو سب لوگ بھوکوں مرجائیں گے وغیرہ وغیرہ بیوی نے اس قدر راستے سنایا کہ وہ بے چارا مومن خالی ہاتھ مسجد پلٹ گیا لوگوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ دیکھا تم نے ستر (۷۰) شیطان تمہارے ہاتھوں سے لپٹ گئے اور تمہیں صدقہ نہیں دینے دیا اس مومن نے جواب دیا میں نے شیطان تو نہیں دیکھے البتہ شیطان کی ماں نے مجھے یہ کار خیر نہیں کرنے دیا۔^۱

امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

ایک دن میں نے ایک دینار صدقہ دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علیٰ تمہیں پتہ ہے کہ صدقہ مومن کے ہاتھوں سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ ستر (۷۰) شیطان مختلف طریقوں سے اسے وسوسہ کر کے اس کا رخیر سے روک دیتے ہیں۔ اور یہ جان لو کہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔^۲

جس شخص کے پاس مال زیادہ ہو گا اس کا حساب بھی سخت ہو گا اور جس کے دوست یا رزیادہ ہوں گے اس کے گرد بہت سے شیاطین جمع ہوں گے۔^۱

۲۳۔ آدمی پر شیطان کے غلبہ کی راہ: (حرام مال)

خثیمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے شیطان کو کہتے سنائے کہ انسان تین چیزوں کے بارہ میں مجھ پر سبقت اور غلبہ نہیں پاسکتا بلکہ میں ان چیزوں کے ذریعہ اس پر قابو پاتا ہوں۔

۱۔ وہ مال جو ناجق اور حرام راستے سے کمایا جائے۔

۲۔ وہ مال جو حرام اور باطل معاملہ میں خرچ کیا جائے۔

۳۔ وہ مال جو آدمی کو راہ حق سے پھیردے۔^۲

۲۴۔ شیطان کی ماں: (صدقہ)

سید نعمت اللہ جازری^۱ اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں نقل کرتے ہیں ایک سال قحط پڑا اس زمانہ میں ایک واعظ نے منبر سے پڑھا کہ جب کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو ستر شیطان اس کے ہاتھوں سے چپک جاتے ہیں اور اسے صدقہ نہیں دینے دیتے۔

ایک مومن وعظ کی مجلس میں بیٹھا یہ سن رہا تھا اس نے بڑے تعجب سے اپنے

۱۔ انوار نعمانیہ جلد ۳ ص ۹۶، مقام الغیب، مذاہ صدر امیر جم ص ۲۳۱

۲۔ وسائل الشیعہ جلد ۶ ص ۲۵۷، تفسیر عیناً شی جلد ۲ ص ۱۱۳

۱۔ بخار الانوار جلد ۲۹ ص ۲۷، بخار جلد ۲۷ ص ۲۷، میزان الحکمت جلد ۹ ص ۲۸۳

۲۔ صحیح البیضا ع جلد ۵ ص ۶۲، احیاء العلوم جلد ۳ ص ۱۷

۲۵۔ شیطان اور اس کی رنگ برنگی ٹوپی: (نامحرم سے خلوت، عہد و پیمان اور صدقہ)

ایک دن ابلیس رنگ برنگی ٹوپی پہنے ہوئے موئی علیہ السلام کے پاس آیا، نزد یک پہنچ کر اس نے رسم ادب کے طور پر ٹوپی اتاری اور سلام کیا۔ حضرت نے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا: میں ابلیس ہوں، حضرت موئی نے سوال کیا: کیوں آیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا: چونکہ پیش خدا کا آپ درجہ بلند ہے لہذا آپ کو سلام کرنے حاضر ہو گیا ہوں۔ موئی نے فرمایا: خدا تجھے مجھ سے دور کرے تاکہ کبھی ایک ساتھ نہ رہیں یہ بتائی ٹوپی کیسی ہے؟ اس نے کہا اس ٹوپی کے رنگوں سے (جن میں سے ہر رنگ دنیوی شہوات اور آرائش کی ایک علامت کے طور پر ہے) لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کر کے انھیں بہکاتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا چھا یہ بتا وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے کی وجہ سے تو آدمیوں پر آسانی سے قابو پالیتا ہے اور اسے خدا کی ہدایت سے نکال کر گمراہی و خلافت کی وادیوں میں بھٹکاتا اور اپنی مراد پاتا ہے؟

شیطان نے کہا: جب انسان عجب و خود پسندی کی صفت کی وجہ سے خدا پر آپ سے راضی ہو جاتا ہے اپنے عمل کو بڑا اور زیادہ سمجھتا ہے اور گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد کہا: اے موئی میں تمہیں تین صفتوں کی تاکید کرتا ہوں۔ ۱۔ اوّل یہ کہ کبھی تم کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہانہ رہنا کیونکہ زن و مرد ایک جگہ تنہا ہوتے ہیں تو میں ان کا ضرور ہدم ہوتا ہوں تاکہ انھیں گناہ

میں آ لودہ کر دوں۔

۲۔ دوسرے یہ کہ کبھی خدا سے کسی بات کا عہد نہ کرنا اور اگر عہد کرنا تو فوراً

اسے بجالانا کیونکہ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے اس کے اور وفا کے

عہد کے نیچے فاصلہ بڑھا دوں۔ (۱)

تیسرا یہ کہ جب صدقہ دینے کا ارادہ کرو تو اسے فوراً دید و کیونکہ جب

بندہ صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کا ہم دم ہوتا ہوں تاکہ اس

کے اور صدقہ کے درمیان جدائی ڈال دوں اور اسے اس کام سے روک

دوں، یہ جملے کہنے کے بعد شیطان روتا دھوتا ہوا چلا گیا اور وہ کہہ رہا تھا:

میرے سر پر خاک جو یہ بات میں نے موئی سے بتائی ہے موئی اسے

آدم کی اولاد سے بتا دیں گے۔ ۱۔

۲۶۔ شیطان اور امانت داری: (امانت میں خیانت)

شیطان کے فریب دینے والے جالوں میں سے ایک جال جوانسان کے

گمراہ کرنے کا سبب ہو سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمانا ہے شیطان اس طریقہ

سے وسوسہ کر کے امانت میں خیانت اور لوگوں کے مال کو غصب کرنے یا اس میں

تصرف کرنے پر بتیا کرتا ہے۔

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص پر لوگوں کو اطمینان اور اعتقاد ہو

اور اسے کوئی امانت پر دل کی جائے اگر اس امانت کو اس کے مالک تک

رب کا علم نہیں رکھتا۔

(قصہ/۲۸)

اس کے بعد اس نے اپنے پیر اور پھیلائے اور اس کا غرور آسمان پر پہونچ گیا اور اس نے کہا:

انا ربکم الاعلیٰ

میں ہی تمہارا سب سے بڑا پور دگار ہوں۔

(نماز عات/۲۳)

ایک دن فرعون حمام میں تھا کہ شیطان، انسان کی صورت میں ظاہر ہوا فرعون کو بلا اجازت آنے والے پر بڑا غصہ آیا، ابیس نے اس سے پوچھا پتہ ہے میں کون ہوں؟ فرعون نے پوچھا کون ہوتا ہے۔ ابیس نے کہا: تم مجھے نہیں پچھانتے جبکہ تم نے مجھے پیدا کیا ہے؟ شیطان کی یہی بات اس کے دل میں بیٹھ گئی اور جس طریقہ سے مشک میں ہوا بھردی جائے اس نے اسے مغرور بنادیا کہ وہ کھلّم کھلّایہ اعلان کرے۔

انا ربکم الاعلیٰ

میں تمہارا بڑا پور دگار ہوں۔

آخر کار خداوند عالم نے اسے اپنی بدرتین سزا میں گرفتار کر کے دریا میں غرق کر دیا اور اس کے بعد دوزخ کے عذاب اور برے انجمام سے دوچار ہو کر دوسروں کی عبرت کا سامان ہوا۔

پہنچا دے تو گویاں نے اپنے گلے سے آگ کی ہزار گر ہیں کھولی ہیں۔

لہذا امانت داری کے معاملہ میں ہوشیار رہو اور اسے مالک کے حوالہ کرنے میں کوتا ہی نہ کرو کیونکہ جو شخص کسی چیز کو اپنے پاس بطور امانت رکھتا ہے ابیس اس کے اوپر اپنے حوالی موالی سو (۱۰۰) شیطانوں کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے امانت کو ادا کرنے سے روکیں اور وسوسہ کر کے اسے گراہ کریں اور اس کی بد بختی کا سامان فراہم کریں۔

۷۔ ابیس اور فرعون: (خود پرستی)

جناب موسیٰ کے زمانہ کا سرکش فرعون اس قدر مغرور ہو گیا تھا کہ ان کی دعوت کے مقابلہ میں صاف صاف کہتا تھا:

لَئِنْ أَتَّخَذَتِ الْهَا غَيْرِيْ لَا جَعْلَنِكَ مِنَ الْمَسْجُونِيْنَ
أَفَمِيرَ عَلَوَهِ تَمَنَّىْ كَسِيْ أَوْ كَوَانِيْ مَعْبُودِ بَنِيَا تَوِيْ مِنْ تَمَہِيْنَ قِيدِيْ مِنْ
ڈَالِ دُوْلَگَا۔

(شعر/۲۹)

دوسرے مقام پر فرعون کی زبانی نقل ہوتا ہے وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے:
وَ قَالَ فَرَعُونَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتَ لَكُمْ مِنَ الْهِ
غَيْرِيْ

فرعون نے کہا میرے زعماء مملکت! میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی

۲۹۔ ابليس اور فرعون: (غفلت، گمراہی، بے خبری)

ایک رات ابليس ملعون کسی کام سے فرعون کے پاس آیا اور اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا۔ فرعون نے اندر سے ہی چیخ کر پوچھا کون ہے؟ اور کیا چاہتا ہے شیطان نے ریاح خارج کی اور کہا یہ تیری داڑھی کے حوالہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ میں کون اور کیا چاہتا ہوں۔^۱

ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مغرور انہ خیالات سے صراطِ مستقیم سے منحرف گمراہی کے سراب میں حیران و سرگردان ہو کر ابدی ہلاکت میں گرفتار ہیں خدا یا ہم اس غرور، غفلت، بے خبری گمراہی اور ہلاکت سے تجھ سے پناہ مانگتے۔^۲

۳۰۔ ابليس اور عبادت: (سجدہ)

جو اہم مسائل شیطان کو فریاد و فغا پر مجبور کرتے ہیں اس میں سے ایک چیز سجدہ کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اپنی یومِ یہ نمازوں میں رکوع و جود کو طول دو، کیونکہ ایسی حالت میں شیطان اسکے پیچھے سے چلاتا ہے اور کہتا ہے: لعنت ہے مجھ پر! یہ شخص اطاعت کرتا ہے اور میں نے نافرمانی کی یہ سجدہ کرتا ہے اور میں نے سرکشی کی (جب مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور میں نے نہیں کیا۔^۳

^۱ مشنوی طاقدیں، حاج ملا احمد زراثی صفحہ ۱۱۹

^۲ بخار الانوار جلد ۶۰ ص ۲۲۱

قرآن کریم کا ارشاد ہے: فاخذہ اللہ نکال الآخرة والاولیٰ۔ انْ فِي ذالك لعبرة لمن يخشى۔

(نازعات/ ۲۵-۲۶)

خداوند عالم نے فرعون کی سرکشی اور غرور کی وجہ سے اسے دنیا و آخرت کے عذاب میں پبتلا کر دیا تاکہ اس کی ہلاکت سے معرفت والے عبرت حاصل کریں۔ (اور سرکشوں کو ان کے غرور کا انجام معلوم ہو جائے)۔^۴

۲۸۔ ابليس اور فرعون: (حماقت)

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن فرعون انگوروں کا ایک خوشہ ساتھ میں اٹھائے کھانے میں مشغول تھا، اتنے میں ابليس ظاہر ہوا اور اس نے کہا: کیا کوئی اس انگور کے خوشہ کو مردار یہ (جو اہرات کی ایک قسم) کا بنا سکتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا: نہیں۔ ابليس نے جادو اور سحر کے ذریعہ اس خوشہ انگور کو مردار یہ بنادیا فرعون کو بڑا تعجب ہوا اس نے کہا واقعہ تم تو استاد نکلے! یہ سننے ہی ابليس نے اسے ایک زور دار طمأنچہ مارا اور کہا: اس استادی کے باوجود میری بندگی قبول نہیں ہوئی تو اس حماقت کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کس طرح کرتا ہے۔^۵

^۴ داستان دوستان جلد ۲ ص ۱۷، منقول از تفسیر قرطبی (سورہ نازعات کے ذیل میں)

^۵ جوامع الحکایات عوفی، قسم اول صفحہ ۲۱

ایک دوسری روایت کے مطابق جب انسان واجب سجدہ والی قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور فوراً سجدہ کرتا ہے۔ تو شیطان ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے اوپر لعنت بھیج کر زار و قطار روتا ہے۔^۱

۳۔ ابليس اور حسد: (نماز)

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ابليس ملعون اسے حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کی رحمت نے اس نمازی کو سر سے پیر تک اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔^۲

ایک روایت پیغمبر اسلام سے اس مضمون کی نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا: جب تک مسلمان خاص کر موسیٰ اپنی پنج گانہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور اسے وقت پر ادا کرتا ہے وہ ایک طرف نماز کی حقیقی روح اور اس کے باطن سے آشنا ہوتا اور آداب و احکام نماز کو صحیح طریقہ سے بجالاتا ہے تو شیطان ملعون اس کی طرف سے ڈرا اور خائف رہتا ہے اور اس سے بھاگتا ہے لیکن اگر موسیٰ روح نماز سے آشنا ہو، اس کے آداب و احکام کی رعایت نہ کرے اور ان امور کو ضائع کرے تو شیطان اس کے مقابلہ میں جری ہو جاتا ہے اور اسے گناہ کی وادی میں دھکیل دیتا ہے لیکن اسے ایسے امور انعام دینے پر میثار کرتا ہے جو بڑے

۱۔ جن آیتوں کی حلاوت پر سجدہ واجب ہوتا ہے وہ حسب ذیل ہیں (سجدہ/۱۵)
(فصلت/۷) (۳) (جم ۶۲) (علق/۱۹)

۲۔ بخار الانوار جلد ۶۰ ص ۲۲۱ ۳۔ خصال جلد ۲ ص ۲۳۲

گناہوں کا سبب بنتے ہیں۔^۱
اللہذا قرآنی آیت کے مطابق حقیقی نمازوہ ہے جو "أَنَّ الصُّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ"^۲ نماز انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے لیکن وہ نماز جس کے ظاہری اور باطنی آداب مکمل طریقہ سے انجام پائیں۔
اللہذا موحد، موسیٰ اور مسلمان کو جان لینا چاہیے کہ اگر وہ گناہ کا مرتكب ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت نہیں کرتا اور نماز کی روح سے وہ مکمل طریقہ سے بے خبر ہے۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

الصلوا حصن من سطوات الشيطان
نماز شیطانی حملوں کے مقابل ایک محکم اور مضبوط قلعہ ہے۔^۳

حضرت دوسرے جملہ میں فرماتے ہیں:

الصلوا حصن الرحمن و مدحرة الشيطان
نماز خدائے رحمان کی پناہ گاہ اور قلعہ اور شیطان لھین کو دور کرنے والی ہے۔^۴

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
ملک الموت نماز پنج گانہ کے وقت لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اول وقت

۱۔ وسائل الشیعہ جلد ۳ ص ۱۸ ۲۔ غرر الحکم جلد ۲ ص ۱۲۲
۳۔ علیجوت/ ۲۵ ۴۔ غرر الحکم جلد ۲ ص ۱۲۷

نماز پڑھتا اور اس کے آداب و شرائط کی رعایت کرتا ہے مرتے وقت
اسے کلمہ شہادتین کی تلقین کرتے اور شیطان کو اس سے دور کرتے
ہیں۔ ۱

۳۲۔ شیطان تاک میں ہے: (ہوشیاری)

ایک دن حضرت موسیٰ خدا سے مناجات میں مشغول تھے اتنے میں شیطان
ظاہر ہوا اور آپ کے قریب آیا، ایک فرشتہ نے اسے دیکھا تو پوچھا جبکہ وہ اپنے
خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں ان سے
بھی وہی چاہتا ہوں جو ان کے باپ آدم سے جست میں چاہا تھا اور اس تک
پہنچا تھا جس طرح آدم نے حکم خدا کو ہمیت نہیں دی اور بہشت سے نکالے گئے
ان کی اولاد بھی نافرمانی اور گناہ کر کے عذاب خداوندی میں گرفتار ہو گی۔ ۲
لہذا اے انسان آگاہ اور ہوشیار رہ! کیونکہ شیطان تجھ سے ایک منٹ کے
لیے بھی غافل نہیں ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

اعشر قلبك التقوى و خالف الهوى تغلب
الشيطان۔

”تقوی اور پرہیز گاری کو اپنے دل کا شعار بناؤ اور نفسانی خواہشات
کی مخالفت کروتا کہ شیطان پر غلبہ پا سکو۔ ۱

۳۳۔ ابليس تفرقہ ڈالنے والا ہے: (صلح و آشتی)

جب دو مسلمانوں یا مومنوں کے درمیان ناچاقی اور جدائی ہوتی ہے تو
شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جیسے ہی آپس میں میل کر لیتے ہیں
شیطان کا جسم لرزنے اور کانپنے لگتا ہے اس کے گھنٹے بھی لرزنے لگتے ہیں وہ نعرہ
لگاتا ہے وائے ہو مجھ پر کہ اس صلح کی وجہ سے میں ہلاک ہو گیا۔ ۲

۳۴۔ ابليس فتنہ جو ہے: (جدائی)

جب ابليس دو مومنوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے تو ان میں سے وہ کسی
کو راہ راست سے مخترف کیے بغیر نہیں چھوڑتا اور جب وہ اپنے مقصد میں
کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور اطمینان سے زمین پر چلت لیٹ
جاتا ہے۔ اور کہتا ہے میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”خدا اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو میرے دودوستوں کے
درمیان الفت و محبت پیدا کرے پس اے ایمان والو! آپس میں

۱۔ غر راحم، جلد ۲ صفحہ ۱۹۵

۲۔ اصول کافی، جلد ۳ ص ۲۵

۱۔ وسائل جلد ۲ ص ۲۶۳

۲۔ بخار الانوار جلد ۲۰ ص ۲۲۶، امامی شیخ صدوق م مجلس ۹۵، کلمۃ اللہ ص ۷۹ حدیث ۱۰۵۔

۳۶۔ شیطان کا درد: (ملاقات)

ابوالمنزرا کہتے ہیں کہ میں نے امام کاظم علیہ السلام کو فرماتے سنائے کہ: شیطان سے مقابلہ کے لیے ہتھیار نکالو اور شیطان کو زیادہ زخم پہنچانے والا ہتھیار مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا ہے۔
واعظ جب دو مومن ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور خدا کے بارہ میں اور ہم اہل بیت کی فضیلت کی باتیں کرتے ہیں تو درد کی شدت سے شیطان کے چہرہ کا گوشہ گرتا ہے۔

۷۔ شیطان کے دوست: (عیب جوئی)

مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ امام صادقؑ نے مجھ سے فرمایا: جو شخص کسی مومن کی برائی اور اس کے نقصان کی بات کرے اور اس سے اس کا مقصد اس مومن کی عیب جوئی اور بے آبروئی ہوتا کہ اس راستے سے لوگوں کی نگاہوں سے گردے اور سماج میں اسے ذلیل و خوار کر دے خداوند عالم ایسے شخص کو اپنی دوستی سے شیطان کی دوستی کی طرف ہنکا کر بتلا کر دیتا ہے لیکن شیطان بھی اس کی دوستی قبول نہیں کرتا اور ایسے آدمی سے بیزاری اور نفرت اختیار کرتا ہے۔

۱۔ اصول کافی جلد ۳، ص ۲۷۰

۲۔ اصول کافی جلد ۳، ص ۲۲

الف۔ محبت اور انس پیدا کرو۔

۳۵۔ شیطان کی صورت: (احسان اور نیکی)

اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے اسحاق میرے دوستوں کے ساتھ جتنی بھلانی کر سکتے ہو کرو کیونکہ جب کوئی مومن دوسرے مومن پر احسان اور نیکی کرتا ہے تو گویا ابليس کے چہرہ کو نوجھتا اور اس کے دل کو زخمی کرتا ہے۔

امام صادقؑ نے عبد اللہ بن جندب سے اپنی نصیحتوں میں فرمایا: آدمی کو پہنانے کے لیے شیطان کے پاس جاں اور رسیاں ہیں الہذا تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔

جندب نے عرض کیا: اے فرزند رسول وہ شیطان کے جاں کیا ہیں؟ فرمایا: ”ایک تو یہی کہ وہ مؤمن بھائی پر احسان اور نیکی کرنے سے روکتا ہے اور اس کی رسیاں نیند وغیرہ ہیں یعنی آدمی سو جائے تاکہ واجب نماز وغیرہ ادا نہ کر سکے۔

۱۔ اصول کافی جلد ۳، ص ۲۵

۲۔ اصول کافی جلد ۳، ص ۲۹۵

۳۔ تحفۃ العقول، بخار الانوار جلد ۵، صفحہ ۲۸۰

۳۸۔ شیطان کی آمد: (گالیاں)

ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے ابو بکر کو گالیاں دینا شروع کیں پیغمبر اسلام چپ چاپ یہ منظر دیکھتے رہے جب وہ چپ ہوا تو ابو بکر نے جواب میں گالیاں شروع کر دیں تو پیغمبر اس جگہ سے اٹھ گئے اور فرمایا: اے ابو بکر جب اس شخص نے تمہیں گالیاں دینا شروع کی تھیں تو خدا نے ایک فرشتہ تمہارے دفاع کے لیے بھیجا تھا لیکن جب تم نے وہی حرکت شروع کر دی تو جو فرشتہ آیا تھا وہ تو چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آگیا اور میں اس بزم میں بیٹھ ہی نہیں سکتا جس میں شیطان ہو۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

”المستبان شیطاناں یتهاتران،“

”دو آدمی جو ایک دوسرے کو مُرا بھلا کہتے اور گالیاں دیتے ہیں دو شیطان ہیں جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں۔۔۔“

امام صادقؑ نے فرمایا:

”جو شخص اس بات کی پرواہ کرے کہ وہ دوسروں کے بارہ میں کیا کہہ رہا ہے یا دوسرے اس کے بارہ میں کیا کہہ رہے ہیں تو شیطان ان کی طبیعت میں دخیل اور شریک ہے۔۔۔“

۳۹۔ فرشتوں کی دوری: (لڑائی جھگڑا)

امام صادق علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں: جب دو آدمی کسی معاملہ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور جو شخص نازدیک اکملات زبان سے ادا کرتا ہے یا گالم گلوں کرتا ہے اس کے جواب میں کہتے ہیں:

اے یہوقوف اور بے عقل! جو کچھ تو بک رہا ہے تو خود اس کا زیادہ حق دار ہے اور بہت جلد تجھے تیری ناسزاً گولی کا خمیازہ بھگلتا پڑے گا اس کے بعد دوسرا شخص جس نے صبر اور برداری سے کام لیا تھا اس سے کہتے ہیں تمہیں اس تحمل اور برداشت اور صبر و شکیبائی کے لیے بخشش و مغفرت سے نواز اجائے گا بشرط یہ کہ آخر تک اپنی برداری کو باقی رکھو۔

لیکن اگر دوسرے شخص نے بھی تحمل کا دامن چھوڑ دیا اور کالی کا جواب گالی سے دیا تو وہ دونوں فرشتے ان دونوں کو چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔۔۔

ایک جملہ میں امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”المراء داء دوى وليس فى الانسان خصلة

شرّ منه وهو خلق ابليس و نسبة“

لڑائی جھگڑا وہ بڑی اور پست بیماری ہے جس سے زیادہ بڑی کوئی دوسری

تھے۔ جب الحسین کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنا جانشین بنانا چاہا، اصحاب کو جمع کر کے فرمایا: تم میں سے جو شخص مجھ سے تین باتوں کا عہد کرے میں اسے اپنا وصی اور جانشین بناؤں گا۔ (۱) ہمیشہ دن میں روزہ رکھے، (۲) ہمیشہ راتوں کو بیدار رہے۔ (۳) اور کبھی غصہ نہ کرے۔ ذوالکفل نے کہا میں ان باتوں پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں، مذکورہ عہد و پیمان کو قبول کرنے کے بعد ذوالکفل کو جانشینی مل گئی اور جیسے ہی جناب الحسین کا انتقال ہوا آپ منصب ثبوت پر فائز ہو گئے، شیطان کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے جناب ذوالکفل کو غصہ والا کر عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنے پر اکسانا چاہا۔ اس نے نعرہ گا کر کے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا تم میں سے کون ذوالکفل کو غصہ دلا سکتا ہے۔ ایک شیطان جس کا نام ابیض تھا اس نے کہا یہ کام میں کرسکتا ہوں۔ شیطان نے اس سے کہا جاؤ شاید تمہیں کامیابی مل جائے۔

ذوالکفل عہد کے مطابق راتوں کو شب بیداری کرتے تھے اور خدا سے مناجات میں گزار دیتے تھے اور دن میں ظہر سے پہلے تک اپنے ذاتی امور انجام دیتے تھے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا بہت سو لیتے تھے اور عصر کے وقت سے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے ابیض نامی شیطان ذوالکفل کو غصہ دلانے کی تاک میں لگا تھا۔ آپ سور ہے تھے کہ وہ شیطان داد و فریاد کرتا ہوا آپ کے پاس آیا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے ایک شخص نے میرا حق مار لیا ہے، چل کر ہم کو اس سے ہمارا حق دلا دیئے۔ ذوالکفل جاگ گئے بڑی نرمی سے اس سے فرمایا: جاؤ اسے میرے پاس بلا لاؤ، ابیض نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا

صفت انسان کے اندر نہیں پائی جاتی کیونکہ لڑائی جھگڑا ابیس اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی صفت ہے۔ ۱

۳۰۔ واقعی بہادر: (نفس پر قابو)

ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ جمع میں ایک طاقت ور شخص زور آزمائی کر رہا ہے اور وہ پتھر جسے لوگ پہلوانوں کا پتھر کہتے ہیں اسے زمین سے اٹھانے میں لگا ہے اور تماشاد کیخنے والا جمع اس آدمی کی زور آزمائی کو دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے دریافت کیا کہ یہ جمع کیسا ہے کچھ لوگوں نے اس پہلوان کے وزن برداری کے بارہ میں بتایا۔ حضرت نے جمع میں پوچھا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟

سب سے بڑا بہادر وہ شخص ہے جسے اگر کوئی گالیاں دے تو وہ برداشت کرے اور اپنے سرکش اور انتقام ہوئے نفس پر قابو پالے اور اپنے نفس کے شیطان اور گالی دینے والے ابیس پر فتح پا جائے۔ ۲

۳۱۔ ذوالکفل پیغمبر اور شیطان: (غضہ)

ذوالکفل، خدا کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اور الحسین علیہ السلام کے صحابی

۱۔ مدنیۃ المرید شہید ثانی، جس ۱۱۸

۲۔ مجموعہ درام جلد ۲ ص ۱۰

ذوالکفل نے اپنی مخصوص انگوٹھی اس کے حوالہ کی کہ اسے دکھا کر اس شخص کو جس نے تم پر ظلم کیا ہے بلا لو، ابیض نے انگوٹھی لی اور چلا گیا دوسرا دن جیسے ہی ذوالکفل سوئے پھر آگیا اور پہلے دن کی طرح داد فریاد شروع کی اور کہا جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس نے تمہاری انگوٹھی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور میرے ساتھ نہیں آیا۔ آپ کے ایک غلام نے ابیض کو ڈانٹا کہ انصاف طلب کرنے کا یہ کون سا وقت ہے تم انھیں آرام نہیں کرنے دیتے یہ نہ کل دن میں سوئے ہیں اور نہ رات میں ہی سوئے ہیں۔

ابیض نے کہا میں انھیں بالکل سونے دوں گا کیونکہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور انھیں ظالم سے میرا حق دلوانا ہو گا ذوالکفل بہت نرمی اور آہستگی سے اٹھے اور ایک خط لکھا اور اس پر اپنی مہر لگائی تاکہ اسے دکھا کر ابیض اس شخص کو فیصلہ کے لیے لائے جس نے اس پر ظلم کیا تھا، ابیض چلا گیا اس دن بھی آپ کی نیند خراب ہوئی اور پھر رات بھر خدا سے دعا و مناجات میں لگزدی۔

تیسرا دن بھی اتنی بے خوابی اور تحکماٹ کے باوجود جیسے ہی ذوالکفل سوئے ویسے ہی چیخ پکار کرتا ہوا وہ شیطان پھر آگیا اور ذوالکفل کو جگا کر کہنے لگا کہ وہ ظالم شخص نہ تو آپ کی انگوٹھی سے متاثر ہوا اور نہ ہی آپ کے مہر خط نے کوئی اثر کیا وہ کسی طور آنے کے لیے رضا مند نہیں ہے۔

جیسے بھی ہو آپ مجھے میرا حق دلوایے تھکے ماندے ذوالکفل اٹھے اور ابیض کا ہاتھ پکڑا اور انصاف کرنے کے لیے ظالم کے پاس جانے کے لیے چل پڑے، اس وقت بہت تیز گرمی اور تپش تھی کہ زمین پر چننا گرتے ہی بھن جائے، اس

حال میں بھی شیطان نے دیکھا کہ ذوالکفل کی پیشانی پر بل نہیں ہے اس نے سمجھ لیا کہ کسی بھی طرح انھیں غصہ نہیں دلایا جاسکتا اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گیا لہذا اس نے اچانک ذوالکفل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چیخ مار کر بھاگ کھڑا ہوا۔^۱

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

‘ظفر بالشیطان من غالب غضبه’

”جو شخص اپنے غصہ پر قابو پالے وہ شیطان پر فتح پا گیا۔^۲

ایک دوسرے جملہ میں آپ نے ارشاد فرمایا:

’احذر الغضب فانه جند عظيم من جنود ابليس‘

”غضہ گرمی سے دور رہو کیونکہ یہ بُری صفت شیطان کے لشکروں میں سے ایک عظیم لشکر ہے۔^۳

۳۲۔ شیطان کی دخل اندازی: (غضہ)

ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام کی بزم میں غصہ اور گرمی کی با تین چل رہی تھیں تو حضرت نے اپنی محضری گفتگو میں فرمایا:

۱۔ بخار الانوار جلد ۲۰ ص ۱۹۵ و ص ۱۹۶، فصوص قرآن یا تاریخ انبیاء جلد ۲ ص ۱۹۶،

استعاظہ شہید ستغیب ص ۱۱۹

۲۔ غرالحکم جلد ۲ ص ۲۷۳

۳۔ فتح البالاغ فیض / نامہ ۲۹، میزان الحکمت جلد ۵ ص ۹۶ و جلد ۷ ص ۲۲۲

”غصہ وہ شیطانی شعلہ ہے جو آدمی کے دل میں بھڑکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ غضنا ک ہوتا ہے تو میں فوراً اس کے ذہن پر قبضہ کر لیتا ہوں اس گھڑی، غصہ، غصب غرور اور بیجا تعصب کی ہوا اس کے دماغ میں بھر دیتا ہوں تاکہ غیظ و غصب کی شدت کی وجہ سے گناہ و محصیت کا مرتكب ہو اور جو میں چاہوں اسے وہ انجام دے۔^۱

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

’ایاک و الغصب فانہ طیرة من الشیطان‘

”غیظ و غصب سے پرہیز کرو کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے جزوی صفت ہے۔^۲

پیغمبر اسلام نے فرمایا:

”الغضب جمرة من الشیطان‘

”غصہ شیطان کی آگ کا شعلہ ہے۔“^۳

۳۲۔ شیطان کا تجسس: (دوستی و دشمنی)

شیطان کہتا ہے کہ مجھے آدمی پر حرمت ہوتی ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کو دوست رکھتا ہے لیکن اس کی نافرمانی کرتا ہے دوسری طرف اعلان کرتا ہے کہ میں

^۱ مجتبی البیضاوی جلد ۵ ص ۵۹، احیاء العلوم جلد ۳ ص ۲۸

^۲ الحجۃ البالانفہ فی حسن الاسلام مکتبہ /۶۷، میزان الحکمت جلد ۷ ص ۲۳۲

^۳ ماہنامہ پاسدار اسلام شمارہ ۱۶۳

الہذا ہر گھڑی ممکن ہے غصہ و گرمی انسان کو دوزخ کی طرف کھینچے، غصہ والے شخص کا کبھی بھی غصہ گناہ کے بغیر جاتا ہی نہیں ہے۔ الہذا اگر تم میں سے کسی کو سخت غصہ ہو تو اگر وہ کھڑا ہے تو فوراً بیٹھ جائے تاکہ شیطان کی ناپاکی اور وسوسمیں اس سے دور ہو جائے، غصہ پی لے اور بیٹھا ہو تو فوراً کھڑا ہو جائے تاکہ غصہ کی گرمی نکل جائے اور شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے۔^۴

۳۳۔ شیطان کے حامی و مددگار: (غیظ)

ایک دن شیطان ایک راہب کے پاس آیا، راہب نے اس سے پوچھا آدمی کی کون سی صفت تمہارے کام میں تمہاری مددگری ہے۔ شیطان نے کہا: تیزی اور تندی (غیظ و غصب) راہب نے پوچھا وہ کیسے؟ شیطان نے کہا: جب آدمی غصب ناک اور خشم گین ہوتا ہے تو غصہ میں بھر جاتا ہے ایسی حالت میں اسے مزید غصہ والا کراپی گردایے نچاتا ہوں جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیندنا چتی ہے۔ دوسری روایت میں شیطان کہتا ہے: آدمی مجھ پر کیوں نکر قابو پا سکتا ہے جبکہ وہ یہ

^۴ اصول کافی جلد ۳ ص ۲۱۵

^۵ اصول کافی جلد ۳ ص ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، امامی شیخ صدوق ہبھجس ۵۲ حدیث ۲۵

شیطان کو دشمن سمجھتا ہوں لیکن میری اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ لے کہا جاتا ہے:

‘ایتاك ان تكون عدوا الابليس في العلانية صديقاله
في السر’

”کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بظاہر شیطان سے دشمنی کا اظہار کرو اور باطن میں اس کے دوست رہو۔“

۲۵۔ شیطان اور دلال: (جھوٹی قسم)

شیطان سے پوچھا گیا کس قسم کے آدمی تھیں پسند ہیں،
اس نے جواب دیا: دلال!

پوچھا گیا وہ کیوں؟ شیطان نے جواب دیا: میں ان کے جھوٹ بولنے کے گناہ پر راضی تھا لیکن انہوں نے جھوٹ کے ساتھ جھوٹی قسم کا بھی اضافہ کر دیا۔
(یہ خود ایک طرح کی بغیر پیسہ کوڑی کی دلائی ہے جس کا فائدہ مجھے پہنچتا ہے اور وہ خود بڑے گناہ میں گرفتار ہوتا ہے۔)

۲۶۔ شیطان اور گناہ گار: (خواب و بیداری)

بیان ہوا ہے کہ شیطان کے لیے گناہ گار کے سونے سے زیادہ تکلیف دہ اور

نا گوار کوئی چیز نہیں ہوتی جب آدمی سورہا ہوتا ہے تو شیطان بے چین رہتا ہے اور کہتا ہے یہ گناہ گار کب اٹھے گا اور دوبارہ گناہوں میں ملوٹ ہو گا۔

لہذا کہا جاتا ہے کہ اگرچہ شیطان ہوشیاری اور بیداری کا دشمن ہے اور وہ صالحین اور پرہیز گاروں کا سونا پسند کرتا ہے لیکن شریروں اور گناہ گاروں کا سونا سے تکلیف دیتا ہے کیونکہ سونے میں وہ بُرے کاموں کی انجام دہی سے باز رہتا ہے۔ لے اس لیے گناہ گار شخص کے حق میں بہترین حالت سونے کی حالت ہے کیونکہ اس صورت میں اگر اس میں کوئی خیر نہیں رہتا تو کم از کم شر بھی اس سے صادر نہیں ہوتا۔

۲۷۔ شیطان مسجد میں: (عالم کا سونا اور جاہل کی عبادت)

ایک خدار سیدہ عالم دین جوزاہد و عابد تھے مسجد کے ارادہ سے گھر سے نکل مسجد پہنچ کر دیکھا شیطان دروازہ کے پیچوں پیچ کھڑا ہے اور بار بار اپنا پیر مسجد میں داخل کرتا اور پھر باہر نکال لیتا ہے جیسے کہ وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ مسجد میں جائے یا نہ جائے۔ عالم نے بیان کیا کہ میں نے شیطان سے کہا: اے ملعون تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے کہا اس مسجد میں ایک جاہل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک عالم سویا ہوا ہے میں جاہل کی نماز کے درپے ہوں لیکن اس عالم کی شوکت وہیت مجھے روک رہی ہے۔

پیغمبر اسلام^{صلی اللہ علیہ و سلم} نے فرمایا:
 ”نوم العالم خیر من عبادة الجاهل“
 ”عالم کا سوناجاہل کی بیداری سے بہتر ہے۔“^۱
 ایک دوسری روایت میں ارشاد ہوتا ہے۔

”نوم مع علم خیر من صلاة مع الجهل“
 ”علم کے ساتھ سوناجہلات کے ساتھ نماز سے بہتر ہے۔“^۲
 رسول اکرم^{صلی اللہ علیہ و سلم} کی حدیث ہے:

”فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد“

”ایک فقیہ شیطان کے لیے ایک ہزار عابدوں پر بھاری ہے۔“^۳
 اسی وجہ سے شیطان ایک جامع الشر اکفیقہ اور عالم دین کی موت پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا سیدہ عالم اور فقیہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا سبب اور گمراہی و ضلالت سے نجات کا ذریعہ ہے۔

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ما من احد يموت من المؤمنين احب الى ابليس

من موت فقيه“

”شیطان کے لیے کسی مومن کی موت ایک فقیہ اور عالم دین کی موت سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔“^۱

۳۸۔ شیطان اور ابوسعید خراز: (دل کا نور)

ابوسعید خراز کہتے ہیں میں نے ایک رات کو خواب میں ابليس ملعون کو دیکھا تو اسے مارنے کے لئے اپنا عصا اٹھایا۔ ابليس نے کہا اے شیخ میں تمہارے عصا سے نہیں دل کے اس نور سے ڈرتا ہوں (جو خدا کا گھر اور اس کے اوپر ایمان اور اس کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔^۲

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ذکر الله مطردة الشیطان،“

”خدا کا ذکر شیطان کو دور کرنے والا ہے۔“^۳

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا:

”علیک بذکر الله فانہ نور القلب،“

”ذکر خدا کرو کیونکہ یاد خدا اور ذکر خدا دل کی روشنی اور اس کا نور ہے۔“^۴

۱۔ اصول کافی جلد اص ۳۶، منیۃ المرید شہید ثانی ص ۶۹

۲۔ رسالہ قشیری ص ۲۰، تذكرة الاولیاء، جلد ۲، ص ۳۵

۳۔ غر راحم جلد ۲ ص ۲۸

۴۔ غر راحم جلد ۲ ص ۲۸۸

۱۔ جامع التمثیل ص ۳۲۰، میزان الحکمت جلد ۶ ص ۳۵۹

۲۔ مجتبی شاء جلد اص ۲۱

۳۔ مجتبی شاء جلد اص ۲۱

۳۹۔ شیطان کی خوشی: (قیامت)

کہا جاتا ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے تین باتوں کے سلسلہ میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ (۱) پہلے یہ کہ کوئی مومن ناحق قتل کیا جائے۔ (۲) دوسرے یہ کہ کوئی شخص کفر کی حالت میں اس دنیا سے اٹھ جائے۔ (۳) تیسرا یہ کہ انسان کے دل میں قیامت اور بے نیازی نہ ہو۔ خداوند عالم فرماتا ہے:

‘وضعت الغنى في القناعة و هم يطلبونه في كثرة
المال فلا يجدونه’

”میں نے آسمائش، آرام اور غمی قیامت میں رکھا ہے لیکن لوگ اسے مال و ثروت کی کثرت میں تلاش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اسے نہیں حاصل کر پاتے۔“

۴۰۔ شیطان کی عاجزی: (مال حرام)

ابلیس ملعون کہتا ہے ہر وہ چیز جو مجھے انسان کو بہانے میں عاجز کرے تو تین چیزوں میں ایک چیز کے ذریعہ میں اس سے ہرگز عاجز نہیں ہوتا ہوں۔

- ۱۔ مال کے حرام طریقہ سے حاصل کرنے سے۔
- ۲۔ مال کے واجبی حقوق (خمس زکات) کے ادا نہ کرنے سے۔
- ۳۔ اور مال کو باطل اور حرام چیزوں میں مصرف کرنے سے۔

لہذا انسان اگر ان مالی امور میں پھنس جائے اور آسودہ ہو جائے تو اسے یقین کر لینا چاہیئے کہ شکاری کے اس جاں سے آدمی کے لیے نکانا آسان نہیں ہے ہوشیار ہو ہیں تمہارا پیر شیطان کے جاں پر نہ پڑنے پائے۔

اکثر خدار سیدہ بزرگ اور علماء فرماتے ہیں: جو شخص مال حرام کی کشافت میں گرفتار ہو جائے وہ پھر کبھی الہام (کارخیر کی طرف فرشتوں کی دعوت) اور وسوسہ (برے کاموں کی طرف شیطان کی دعوت) میں فرق نہ سمجھ پائے گا۔ لہ کیونکہ اس کا گوشت پوست اور ہڈیاں حرام کے ذریعہ بڑھی اور مضبوط ہوئی ہیں البتہ چونکہ اس کی مہار شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لہذا ہر برے کام کا وہ مرتكب ہوتا ہے کیونکہ تمام گناہوں کی جڑ مال حرام اور حرام خوری ہے قرآنی آیات کے مطابق شیطان اسی راستہ سے انسان کے وجود میں راہ پاتا ہے اور اسے ہلاکت کے دل دل میں ڈال دیتا ہے۔

۴۵۔ شیطان کی دوکان: (حب دنیا)

دنیا شیطان کی دوکان ہے، اس کی دوکان سے کوئی چیز چراً اور اسے ختم کر دو کیونکہ وہ تمہارا پیچھا کرے گا اور تمہیں اپنے جاں میں پھنسائے گا۔ دوسرے لفظوں میں بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے لہذا اس کی دوکان سے کچھ نہ چراً ورنہ وہ تمہارا پیچھا کرے گا۔ ۲۔ ابلیس کا زبردست جاں دینیوں

”حب الدنیا اصل کل معصیہ و اول کل ذنب،
”دنیا کی دوستی ہرگناہ کی جڑ اور اس کا سرچشمہ ہے۔۱

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں:

”حب الدنیا رأس کل خطیئة“

”دنیا کی دوستی ہرگناہ کی اصل ہے۔“۲

شیخ جنم الدین کبریٰ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں: جس زمانہ میں میں بزرگ علماء سے کب فیض کر رہا تھا تو وہ مجھ سے فرماتے تھے: گذشتہ زمانہ میں شیاطین اور نفس امارةہ دین و دیانت کی تحلیل سے کچھ چرا لیتے تھے اور اس زمانہ میں جبکہ انسان کا دین شیاطین اور نفس امارةہ کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے تم ان کے ہاتھ سے کچھ چرالو۔ ہم نے کہا: کیا چیز چرا میں؟ فرمایا: اپنے عمر کی ایک گھنٹی ان سے چرا کر خداوند عالم کی خالص عبادت میں خرچ کر دو۔۳

۱۔ میزان الحکمت جلد ۳ ص ۲۹۵

۲۔ مجموعہ ورام جلد ۲ ص ۱۲۲

۳۔ رسالہ ”ولی الہائم الخائف من لومة اللائم“ جنم الدین کبریٰ ص ۱۱

۵۲۔ شیطان کی شکارگاہ: (مال و دولت)

روایات کے مطابق: شیطان آدمی کو جس طرح چاہتا ہے اپنے گرد نچاتا ہے اور ہر گناہ کی طرف اسے کھینچتا ہے اور تھکا دیتا ہے پھر مال و دولت کے قریب تاک لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی انسان مال و دولت شیطان کی بہت بڑی شکارگاہ ہے اور اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے کیونکہ مال و دولت شیطان کی بہت بڑی شکارگاہ ہے اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس تک پہنچ جائیں اور شیطان کے فریب میں ن آئیں۔۱

امام باقرؑ فرماتے ہیں:

”مال و ثروت کی دوستی انسان کے دین و ایمان پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہے بالکل گوسفند کے گله میں دو خونخوار بھیڑیوں کی طرح کر ایک آگے سے حملہ کرے اور دوسری اپنے سے حملہ کرے۔“۲

۵۳۔ ابیس کا شکار: (دنیا و آخوت والے)

شیخ ابوسعید ابوالخیر کہتے ہیں:

اہل دنیا شہوات، نفسانی خواہشات کی جال کے ذریعہ ابیس کے شکار ہیں اور آخوت والے حق کے شکار ہیں غم و اندوہ اور آخوت اور

۱۔ اصول کافی جلد ۲ ص ۳، بخار الانوار جلد ۲۰ ص ۲۶۰، مجموعہ ورام جلد ۲ ص ۲۰۶

۲۔ اصول کافی جلد ۲ ص ۳

لقاء اللہ سے دوری کے ذریعہ۔ لہاں اکثر شیطانی وسوسے شہوات اور دنیا کی دوستی کی خاطر ہوتے ہیں۔

۵۲۔ شیطان کے جال اور حیلے: (غصہ اور شہوت)

ایک نبی نے ابلیس ملعون سے پوچھا تم کس طرح آدمیوں پر قابو پاتے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا: غصہ، غیظ، شہوت اور نفسانی خواہشات کے ذریعہ۔^۱ ایک دوسرے جملہ میں رسول خدا سے نقل ہوا ہے کہ ابلیس ملعون کہتا ہے کہ غصہ گرمی میرے شکار کے جال اور ہمند ہیں جن کے ذریعہ میں بہترین لوگوں کا شکار کرتا ہوں اور انھیں جت میں داخل ہونے والے دروازہ سے دور رکھتا ہوں۔^۲

شہوت اور ہواۓ نفس کے بارہ میں حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

”الشہوات مصاید الشیطان“

^۱ اسرار توحید جلد ۷ ص ۲۹۱

^۲ مجھ المیضا جلد ۵ ص ۱۵۹، حیاء العلوم جلد ۳ ص ۲۸۵

^۳ جامع الاخبار فصل ۱۲۲، ص ۱۵۶، بخار الانوار جلد ۷ ص ۲۶۵

شہوتیں شیطان کے شکار کا جال ہیں۔^۱
”والھویٰ قائد جیش الشیطان“
ہوئی اور نفسانی خواہش شیطانی لشکر کے سردار ہیں۔^۲

۵۵۔ ابلیس اور عابد: (دھوکہ و فریب)

بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو کبھی دنیا میں آلو دہ نہ ہوا تھا اور نہ اس کے چکر میں پڑا تھا وہ دنیا کی لذت توں سے دور خداوند عالم کی اطاعت و عبادت میں مشغول تھا وہ دنیا سے دوری حاصل کرنے اور عبادت کے معاملہ میں اتنا محنتی تھا کہ شیطان اس سے عاجز تھا۔ آخر کار ایک دن شیطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے چیخ ماری اس کا پورا لشکر اس کے گرد جمع ہو گیا اس نے ان سے کہا کہ میں اس عابد کے ہاتھوں میں بہت زیادہ پریشان ہوں تم میں سے کون اسے اس کے راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ ایک شیطان نچہ نے اپنی خدمات پیش کیں۔ شیطان نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا میں عورتوں کے ذریعہ اسے وسوسہ کر کے گناہ آلو دہ کر سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا: اس راستے سے کامیاب نہ ہو گے کیونکہ وہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے۔ دوسرے نے کہا: میں بہکا سکتا ہوں۔ شیطان نے اس سے بھی طریقہ کار دریافت کیا۔ اس نے کہا: میں شراب پلانے اور لذیذ غذا کے ذریعہ اسے فریب دے سکتا ہوں تاکہ وہ حرام خواری اور شراب خواری کے ذریعہ ہلاک

ہو۔ شیطان نے کہا: یہ طریقہ بھی فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ پہیزگاری کی وجہ سے اس کی اس طرح کی شہوت بھی مرگی ہے۔ تیرے نے کہا: میں اسے گراہ کر سکتا ہوں۔ پوچھا کیسے؟ کہا: کارخیر کے ذریعہ وہ جس عبادت و اطاعت میں سرگرم ہے اسی کے ذریعہ فریب دے سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا: ہاں یہ ممکن ہے کہ تم اطاعت و عبادت کے وسیلے سے کچھ کرسکو گے، تم ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ وہ شیطان آیا اور اس نے عابد کے برابر میں ایک جگہ کا انتخاب کیا اور جانماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک نماز کے تمام ہوتے ہی دوسرا نماز میں لگ جاتا۔ عابد نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ ۲۷ گھنٹے میں تھوڑی دیر آرام بھی کرتا تھا لیکن اس نے دیکھا کہ نیانمازی نہ سوتا ہے نہ آرام کرتا ہے بس مسلسل نماز پڑھے جاتا ہے اور تھلتا بھی نہیں ہے لہذا عابد خود اپنی نگاہ میں گر گیا اور اپنی عبادت کو حقیر اور اس کو اپنے سے بزرگ محسوس کرنے لگا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس نووارد عابد سے پوچھے گا کہ وہ کس طرح اس مقام و منزلت تک پہنچ گیا یہ سوچ کروہ اس کے پاس آیا اور کہا: اے بندہ خدا تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا تمہیں عبادت کی اتنی طاقت کیونکر نصیب ہوئی کہ خواب و خوارک سے دور اتنی نمازیں پڑھ رہے ہو۔ اس نے عابد کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا نماز مکمل ہونے کے بعد دوسرا نماز شروع کر دیتا یہاں تک کہ عابد نے کئی مرتبہ اپنی بات دھرائی اور اس سے التماس کی کہ تھوڑاٹھہ جائے اور اس کی باتوں کا جواب دے دے۔ اس نووارد عابد نے نماز تمام کی اور کہا کہ اے بندہ خدا میں نے ایک گناہ کیا

ہے اور اس سے توبہ کی ہے۔ جب بھی اس گناہ کو یاد کرتا ہوں مجھے عبادت کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے جو اس طرح نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں، اسی گناہ اور توبہ کے ذریعہ میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ عابد نے اس سے گناہ کی نوعیت دریافت کی تاکہ اسے کرنے کے بعد توبہ کرے اور عبادت کی قوت حاصل کرے اور اس کے مقام و مرتبہ کو حاصل کر لے۔ نووارد عابد نے کہا شہر جا کر فلاں بدکار عورت کو دو درہم دو اور زنا کرنے کے بعد توبہ کروتا کہ عبادت و نماز کی مطلوبہ طاقت حاصل ہو جائے۔

عبد نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس نے دو درہم اسے دیئے اور کہا اب جاؤ وہ عابد اسی حالت میں کہ جس میں عبادت کر رہا تھا شہر میں وارد ہوا اور پوچھتے پوچھتے اس بدکار کے گھر پہنچ گیا جن لوگوں سے اس نے راستہ پوچھا تھا وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ عابد اس عورت کو نصیحت کرنے جا رہا ہے۔ عابد اس عورت کے پاس پہنچا اور اسے دو درہم دے کر اپنامدہ عابدی کیا، عورت نے اس کی حالت اور چہرہ وغیرہ سے کہ جس سے زہد و تقویٰ ظاہر ہو رہا تھا سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ عورت نے عابد سے کہا کہ جس لباس اور ہیئت میں تم یہاں آئے ہو لوگ یہاں اس طرح نہیں آتے تم مجھے پوری بات بتاؤ تو کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ عابد نے پوری داستان سنادی۔ عورت نے کہا: اے بندہ خدا گناہ نہ کرنا تو بہ کرنے سے زیادہ آسان ہے اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توفیق توبہ حاصل ہوگی یا نہیں یا یہ کہ توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں اس کے علاوہ وہ کپڑا

جونہ پھشا ہو وہ بہتر ہے یا وہ کپڑا چھاڑ کر پیوند لگایا گیا ہو۔ لہذا جس نے بھی تمہیں یہ راستہ بتایا ہے وہ شیطان تھا جو تمہارے سامنے اس طرح مجسم ہو کر آیا تھا کہ تمہیں راہ حق سے مخفف کر دے اب واپس جاؤ اپنا دامن اس بہانے سے آلوہ نہ کرو کیونکہ یقیناً جس وقت تم واپس اپنی جگہ پہنچو گے اسے وہاں نہ پاؤ گے کیونکہ چور جیسے ہی پہچان لیا جاتا ہے بھاگ نکلتا ہی اس طرح مومن جب سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے تو شیطان بھاگ نکلتا ہے۔ اور ہوا بھی یہی جب عابد اپنی جگہ پر پہنچا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے وہ سمجھ گیا کہ ابليس ملعون اسے کس جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔

ای رات اس بد کار عورت کا انتقال ہو گیا اور جب صبح ہوئی تو اس کے دروازہ پر لکھا تھا فلاں عورت کے کفن دفن کے لیے اکٹھا ہو کیونکہ وہ عورت جنتی ہے لوگ حیران رہ گئے کچھ سمجھنے سکے لہذا اس کا جنازہ تین دن تک دفن نہ ہو سکا یہاں تک کہ اس زمانہ کے پیغمبر جناب موسیٰ بن عمران علیہما السلام پر وحی ہوئی کہ اس عورت کے جنازہ میں جاؤ اور تم بھی اس پر نماز پڑھو اور دوسرے لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہو کیونکہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور جنت اس پر واجب قرار دی ہے کیونکہ اس نے میرے ایک بندہ کو گناہ اور نافرمانی سے روکا ہے اور جو میرے دروازہ سے بھاگ کر چلا گیا تھا اسے واپس کیا ہے تو ہم نے بھی اسے نجات دے دی۔^۱

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
لقد نصب ابليس حبائلہ فی دار الغرور فما یقصد
فیها الا اولیاء نا

ابليس نے اس دنیا اور دار غرور میں اپنے جال بچھا رکھے ہیں اور اس کا نشانہ ہمارے دوستوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔^۲

۶۵۔ شیطان کا غالبہ: (خود پسندی)

ایک دن ابليس ملعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا اگر تین معاملات میں میں آدمی پر قابو پالوں تو اس کے بعد مجھے اس کے سلسلہ میں کوئی پریشانی نہ ہوگی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا عمل قبول نہ ہوگا۔

- ۱۔ جب وہ اپنے عمل کو بڑا اور زیادہ سمجھے۔
- ۲۔ اپنے گناہوں کو بھلا دے۔
- ۳۔ جس وقت خود پسندی اور خود خواہی اس میں سرایت کر جائے۔^۳

۷۵۔ فخر و مبارکات

۹۔ میں نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت مدینہ آئی اور اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور دین اسلام کے سلسلہ میں بحث و مباحثہ کیا۔

وہ لوگ لمبے اچھے اور قیمتی لیشمی لباس اور انگوٹھیاں پہنے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آس حضرت کو سلام کیا لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور منہ پھیر لیا۔

وہ لوگ بہت بڑھ ہوئے انھیں پیغمبر اسلام کے رویہ پر حیرانی تھی انہوں نے یہ بات حضرت علی علیہ السلام سے بتائی تو آپ نے فرمایا: مجھے لگتا ہے تمہارے زرق برق لباس کی وجہ سے پیغمبر نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔

یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی وہ گئے اور انگوٹھیاں اتار کر سادہ لباس میں آنحضرت کی خدمت میں آئے اور سلام کیا اس مرتبہ آپ نے انھیں سلام کا جواب دیا اور ان سے خندہ پیشانی سے ملے اور ان سے فرمایا:

وَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ لَقَدْ أَتَوْنِي الْمَرَّةُ الْأُولَىٰ وَ إِنَّ

ابليس معهم

اس خدا کی قسم جس نے مجھے بحق مبعوث کیا ہے جب یہ پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے ہمراہ شیطان کو دیکھا تھا۔

۵۸۔ شیطانی کام: (وسوسم)

ایک شخص کو وضو میں بہت زیادہ شک ہوتا تھا اعضاء وضو کوئی مرتبہ دھونے کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا تھا اور وہ اسے نامکمل قرار دیتے ہوئے بار بار تکرار کرتا تھا۔

عبد اللہ بن سنان کہتے ہیں: میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ اس آدمی کا خیال آگیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ شخص عاقل ہے پھر بھی وضو کرنے میں وسوسمہ کاشکار ہے۔

آپ نے فرمایا: اس کے پاس یہ کیسی عقل ہے اور وہ کیسا عاقل ہے جو شیطان کی پیروی کرتا ہے۔

میں نے عرض کیا: وہ شیطان کی کہاں پیروی کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا: تم خود اس سے پوچھ لو کہ یہ وسوسمہ جو اسے ہوتا ہے کس کی طرف سے ہے تو وہ خود جواب دے گا کہ یہ ”شیطانی کام“ ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ وسوسمہ کاری شیطان کے القنات میں سے ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے:

من شرّ الوسواسِ الخناسِ، الَّذِي يُوسوسُ فِي
صَدُورِ النَّاسِ۔ (ناس ۵-۶)

میں پناہ مانگتا ہوں شیطانی وسوسمہ کے ثرے سے جو نام خدا من کر پچھے ہٹ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسمہ پیدا کرتا ہے۔

امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ”وسوسمہ کار“ اور ”سواس“ کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ: وسوسہ، شک، تزلیل اور شرک وغیرہ شیطانی کام اور القاتاں ہیں جو وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور انھیں سے دلوں میں باطل اور خبیث خیالات پیدا ہوتے ہیں۔

ابتہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین میں احتیاط کرنے اور تقویٰ کی بنیاد پر وسوسہ کا شکار ہیں (مثلاً وضوء یا غسل میں وسوسہ کرنا) تو وہ دوسرے الہی احکام جس میں احتیاط اور توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے وسوسہ پر توجہ کیوں نہیں دیتے کیا ایسے لوگ نظر میں ہیں جو مشکوک مال یعنی جن کا حرام یا حلال ہونا یقینی طور پر معلوم نہ ہواں میں احتیاط کرتے ہیں اور اسے استعمال نہیں کرتے یا اپنا خمس وزکوٰۃ ایک دفعہ کے بجائے کئی مرتبہ نکالتے ہوں اور ایک دفعہ کے بجائے واجب حج کئی مرتبہ بجالاتے ہوں یعنی اگر انسان واقعاً احتیاط کرنا چاہتا ہے تو واقعی حلال پر اکتفاء کیوں نہیں کرتا؟

وسواسی آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وسوسہ کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ دین کے خلاف جہالت، نادانی اور نافہمی سے ربط رکھتا ہے لیکن چونکہ اس وسواسی شخص کو صحیح بات نہیں معلوم ہوئی اور اسے نہ صرف یہ کہ اس اخترافی عمل سے روکا نہیں گیا بلکہ اسکی تعریف و توصیف ہوئی ہے اور اس نے بھی اس عمل کا پیچھا پکڑ لیا اور اسے کمال کی حد تک پہنچا دیا اور اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بنا دیا ہے اور اسی خدا کی بارگاہ سے دور کر دیا ہے۔

اب جبکہ یہ بات عقلی اور نعلیٰ اعتبار سے معلوم ہو چکی ہے کہ یہ وسوسے شیطانی

ہیں اور دلوں میں آنے والے یہ خیالات ابلیس کی کارستنیاں ہیں جو ہمارے اعمال کو باطل اور ہمارے دل کو حق سے محرف کر دیتی ہیں تو یہ بھی قابل توجہ امر ہے کہ یہ وسوسہ کرنے والا شاید طہارت اور وضوء کی حد تک نہ رہے بلکہ اپنے ہاتھ پر عقاید، دین اور دیانت کے بارہ میں پھیلادے تاکہ دین کے نام پر تمہیں دین سے خارج کر دے اور وجود خدا اور قیامت کے عقیدہ کو مشکوک بنائے ابتدی بد نیختی اور شقاوتوں سے دوچار کر دے اور تم میں جو لوگ فتن و فجر اور فحشاء سے دھوکہ نہیں کھا سکتے ان کے سامنے وہ عبادتوں، احکام الہی اور نیک اعمال کی نقاپ اوڑھ کر ان کے عقاید سے کھلواڑ کرتا ہے لہذا جس طرح بھی ممکن ہو آدمی کو اس بری صفت کا علاج کرنا چاہیے کیونکہ شیطان اسی کے ذریعہ آدمیوں کو اپنے قابو میں کرتا ہے۔

۵۹۔ شیطان قیامت کے دن: (سرکش نفس)

شیخ ابوسعید ابوالخیر کہتے ہیں: روز قیامت جب ابلیس کو اس کے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ جنمیں اس نے دنیا میں بہ کایا ہو گا حاضر کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا تو نے اس قدر لوگوں بہ کایا اور صراط مستقیم سے دور کیا ہے؟ شیطان جواب دے گا: نہیں میں نے انھیں صرف دعوت دی تھی، انھیں میری دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے تھی۔

اس سوال و جواب کے بعد حضرت آدم کو ابلیس اور مریدوں کے سامنے لا لیا

حق و حقیقت کی راہ پر پایدار کر دے اور اس کی مدد کے ذریعہ باطل پر غلبہ اور تسلط حاصل کرلو اور ظالم و شمن کا شرم سے دور ہو جائے۔
خداوند عالم کا ارشاد ہے:

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتُوَكَّلُونَ (نَحْل / ۹۹)

جو خدا پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنے امور کو پروردگار کے حوالہ کر دیا اور اس پر تو گل اور اعتماد کیا اس پر شیطان غلبہ نہیں پاتا ہے۔

۶۰۔ شادی سے شیطان کی نفرت: (شادی میں دین کی ضمانت ہے)

بہت سے موقع ایسے ہیں جب شیطان آہ و فنا کرتا ہے اور رنج و درد سے بیچ و تباہ کھاتا ہے ان میں سے ایک موقع اس وقت ہے جب ایک غیر شادی شدہ شخص شادی کرتا ہے۔

رسول اکرم فرماتے ہیں: جب کوئی جوان شادی کرتا ہے تو شیطان چختا ہے اور کہتا ہے مجھ پر لعنت ہو، مجھ پر لعنت ہو اس جوان نے شادی کر کے اپنا دو تھائی دین میری دسترس سے بچالیا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں: ایسے بندہ کو اپنے ایک تھائی باقی ماندہ دین کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اے ایک دوسری روایت

جائے گا اور کہا جائے گا خیراب تک جو کہا اس کا وقت گز رگیا اب آدم کو سجدہ کرلو تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔

اس گھڑی شیطان کے تمام ساتھی اور مرید فریاد کریں گے اور کہیں گے: اے ابیس سجدہ کر لے تاکہ تو خود اور ہم لوگ سب کے سب رنج و الم سے نجات پا جائیں، ان باتوں کو سن کر ابیس رونے لگے گا اور کہے گا کہ اگر میرا اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں پہلے دن ہی سجدہ کر لیتا لیکن یہ سرکش نفس میرا اختیار پر آمادہ کرتا ہوں تو کہتا ہے اگر سجدہ کرنا ہوتا تو میں پہلے ہی دن کر لیتا اب کیا کیا جائے دیر ہو چکی ہے اور اس خبیث نفس سے نجات کا راستہ چھین چکا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

ظلم نفسه من عصى الله و اطاع الشيطان
اپنے نفس اور جان پر ظلم کرنا خدا کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت ہے۔

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: تم شیطان سے ویسے ہی معاملہ کرو جیسے ایک جنگی آدمی چڑا ہے کے کتنے سے معاملہ کرتا ہے جب کتنا اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ مجبوراً اس سے بھاگ کر چڑا ہے کی پناہ حاصل کرتا ہے، تم بھی شیطان کے وسوسے کے وقت کہ جب وہ تمہیں راہ حق سے محرف کر دینا چاہتا ہے پروردگار کے ذکر کے ذریعاء سے اپنے سے دور کرو اور خدا کی پناہ حاصل کرو تاکہ خدا تمہیں

میں حضرت[ؐ] نے فرمایا: اگر کوئی شخص جوانی میں شادی کرتا ہے تو شیطان چیختا ہے اور کہتا ہے مجھ پر لعنت مجھ پر لعنت اس جوان نے اپنا دین میرے شر سے بچا لیا۔^۱

۲۱۔ شیطان اور شادی کا عہد و پیمان: (شادی شدہ وغیر شادی شدہ)

شیطان تمام حلال چیزوں سے بیزار اور منتفہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص دین کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے کوئی کام انجام دیتا ہے تو شیطان کی داد و فریاد بلند ہو جاتی ہے وہ اپنے سر پر دھڑکنا مرتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم حکم اور قانون، اسلام میں شادی کا ہے جس کے ذریعہ مسلم معاشرہ شیطان کے شہوانی و سوسوں کے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور خاندان کی تشكیل انسان کو فکشاء اور فساد سے بچائی ہے۔

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: کوئی بھی حلال یا مباح عمل خدا کے نزدیک شادی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جب کوئی مومن شادی کرتا ہے اور اپنے شب و روز اپنی بیوی کے ساتھ گذارتا ہے تو شیطان ان سے دور بھاگتا اور فریاد کرتا ہے مجھ پر لعنت ہوا شخص نے حلال اور مباح عمل کے ذریعہ اپنے پروردگار کی اطاعت کی جس کی وجہ سے اس کے گناہ بخشنے گئے۔^۲

۱۔ میزان الحکمت جلد ۳ ص ۲۷۲

۲۔ متدرک جلد ۲ ص ۵۳ طبع جدید جلد ۱۳ ص ۱۱۵۳ ابواب مقدمات نکاح باب

دوسری طرف اگر یہ حلال کام چھوڑ دیا جائے یا ہمارے جوان اس حلال کام سے دور ہو جائیں۔ یا یہ کہ جوانوں کے لیے شادی کا عمل مختلف و جو بات مثلاً اقتصادیات کی وجہ سے سہل و آسان نہ ہو تو اس کے انتہائی برے نتائج ظاہر ہوں گے جس میں سے ایک فساد و فحشا اور لا ابالی حرکتیں ہیں۔

لہذا انفرادی اور اجتماعی عمل کے یہی بُرے نتائج و آثار ہیں جسے شیطان پسند کرتا ہے وہ اسی کے ذریعہ سے مسلم معاشرہ کو معصیت و شہوت رانی کے دل دل میں دھنسانا چاہتا ہے اور اس کام کے لیے غیر شادی شدہ افراد یا وہ لوگ جو گھر بسانا نہیں چاہتے یا پھر جو شادی کرنے میں سکتے نشانہ قرار پاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

تزوّج والآفانت من أخوان الشّياطين
شادی کرو ورنہ شیطان کے بھائیوں میں شمار ہو گے۔^۱

دوسری روایت میں حضرت[ؐ] نے فرمایا:

شرار کم عزّابکم والعزّاب اخوان الشّياطين
لوگوں میں سب سے بدتر افراد غیر شادی شدہ ہیں اور جو لوگ شادی نہیں کرتے اور اس سے دوری اختیار کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔^۲

۶۲۔ شیطان کی خوش حالی: (میاں بیوی کی لڑائی)

سید نعمت اللہ جزایری کہتے ہیں:

جس وقت میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے شیاطین اس گھر کے چاروں طرف جمع ہو کر خوب خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہمیں خوش کرے وہ ہمیشہ خوش و ختم رہے۔ لیکن جب دونوں صلح کر لیتے ہیں تو وہ لوگ برہم ہو کر اس جگہ سے دور چلے جاتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں: خدا نھیں غم گین کرے جو ہماری تکلیف اور غصہ کا سبب بنتے ہیں۔

ایک خاندان کی مثالی زندگی خلوص، محبت، عشق، صداقت، ایثار اور قربانی میں ہے جو ایک دوسرے کی نسبت انجام پاتی ہے۔

پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

ان للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيٰ۔^۱

میاں بیوی کے درمیان ایسا رابطہ اور اتصال ہوتا ہے جیسا کسی دوسری چیز کے درمیان نہیں پایا جاتا لیکن ایک اچھی زندگی کے تباہ، تلخ اور ویران ہونے میں ایک دوسرے کو نہ سمجھنے اور بے ہودہ جھگڑے اور مار پیٹ کا عصر کار فرما ہوتا ہے۔

۱۔ زہر الزیع

۲۔ المجموع المفہوم لاحادیث النبی جلد ۲ ص ۳۶، نجح الفضاحة حدیث ۸۸۱، نجح الفضاحة حدیث ۷۷، ۳۶ ص ۱۱۹۔

آنحضرت فرماتے ہیں:

ایضرب احد کم المراءۃ ثم يظل معانقها
کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو مارے پیٹے اس کے بعد اس سے
ہنسنے اور ایک نکیہ پر لینے کے لیے کہے۔

۶۳۔ شادی کی تقریب میں شیطان کی حاضری: (ناچ گانا)

ابوالحارث اوسی حکایت کرتے ہیں کہ: ایک رات شیطان ملعون کو خواب میں دیکھا جو ایک چھت کے اوپر کھڑا ہے اور ایک گروہ اس کے دائے ہے اور دوسرا اس کے باہمیں جانب کھڑا ہے اور میں خود دوسری چھت پر ہوں میں نے ان کے ظاہر کا بغور مطالعہ کیا دیکھا وہ بہترین رنگ برلنگے لباس اس طرح پہنے ہوئے ہیں جیسے لوگ شادی وغیرہ کے جشن میں زیب تن کرتے ہیں اس کے بعد شیطان نے اپنے قریب کھڑے لوگوں سے کہا ان سے کہہ دو گائیں بجا میں۔ شیطان کے حکم سے گروہ نے گانا بجانا شروع کیا اور میں اسے سننے میں اتنا محو ہو گیا کہ قریب تھا کہ زمین پر گر پڑوں، تھوڑی دیر کے بعد شیطان نے ناچنے کا حکم دیا اور وہ لوگ ایسا ناچ کے میں نے اپنی زندگی میں اتنا اچھا ناچ دیکھا ہی نہ تھا وہ لوگ ناچ ہی رہے تھے کہ شیطان میری طرف متوجہ ہوا اور کہا اے ابا حارت: مجھے تمہارے دل تک رسائی کے لیے کوئی حرہ نہ ملا سوائے ناچ گانے اور تھر کنے

کے۔
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں: ﴿إِنَّمَا يُحِبُّ الْمُنْفَعَى﴾
کان ابلیس اوّل من ناح و اوّل من تغنى
سب سے پہلے جس نے نوح سرائی کی ہے اور ناجا گایا ہے وہ ابلیس
تھا۔^۲

ابليس ملعون اس وقت نوح میں مشغول ہوا جب آدم صفحی اللہ کو سجدہ نہ کرنے
کے جرم میں خدا کی بارگاہ سے نکلا گیا۔

اور اس نے ناج گانا اس وقت شروع کیا جب ہزاروں حیے بہانے اور مکرو
فریب کے ذریعہ آدم کو گندم کھلا کر بہشت سے نکلا۔

شادی بیاہ کی اکثر محفلوں میں بعض لوگ ایک رات کی جھوٹی لذت حاصل
کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ کو ہر حرام کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور کسی
طرح کی رعایت نہیں کرتے اور کہتے ہیں شادی کی رات ہے اس میں خوش ہونا
چاہیے ایک رات کی بات ہے یہ گھری بار بار نہیں آتی جبکہ ایسے وقت میں اگر
مذہبی نشست رکھی جائے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ورنہ دوسری صورت
میں ایک رات کے ناجائز جشن کے بعد مشکلات ایجاد کرنے والی ہزار راتیں
آئیں گی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جب شادی کی محفل میں بلا یا

جائے تو عجلت نہ کرو بلکہ اس میں تھوڑا دری سے جاؤ کیونکہ شادی کی بزم انسان کو
دنیا میں محو کر دیتی ہے (آدمی کو غافل کر کے دنیا کا دیوانہ بنادیتی ہے) اس کے
برخلاف جب تشییع جنازہ میں بلا یا جائے تو بہت جلدی جاؤ کیونکہ وہاں کی شرکت
آخرت کی یاد دہانی کا سبب بنتی ہے اور انسان کو ہوشیار کر کے آخرت کی طرف
رغبت دلاتی ہے۔^۱

ہاں کیوں نہ ہو حضرت جانتے ہیں کہ یہ غافل انسان ایک لحظے کے جھوٹے
عشق و عیش کے لیے اپنی دنیا و آخرت کو ویران کرنے پر تیار ہو جاتا ہے لہذا آپ
سو گوار محفل میں شرکت کو جشن شادی کی شرکت پر مقدم فرماتے ہیں اور عشق کے
گھر کے بجائے آخرت کو آباد کرتے ہیں تاکہ انسان غفلت کو ترک کر کے
جاوہانی بزم کی رونق کے لیے کوشش رہے اور اس دنیا کی چند روزہ لذت توں سے
دھوکہ نہ کھائے جبکہ انسان اس دنیا کی لذت توں سے صحیح اور جائز طور پر استفادہ
کر سکتا ہے کیونکہ خدا نے انسان کی زندگی کے تمام اسباب و امور کو خوش بختی اور
سعادت کے ساتھ رکھا جس کا نتیجہ آخرت کی سعادت و خوش نصیبی ہے۔
اعور وہ ہے جو صرف زمان حال کو دیکھتا ہے اور بس اور چوپاپیوں کی طرح
اپنے انجام اور نتائج کی دریافت سے غافل ہے۔^۲

۱۔ بخار الانوار جلد ۱۰۰ ص ۲۷۹، وسائل جلد ۲ ص ۲۶۰ و ص ۲۶۱ و متدرک الوسائل جلد ۲

ص ۱۹۹

۲۔ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلد ۱۰ ص ۲۶۶

۶۲۔ ناج گانے کے اثرات: (بے شرمی اور غیرتی)

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

ابليس ملعون کے لشکر میں "قفتدر" نام کا ایک شیطان ہے جب ایک گھر سے چالیس دن تک گانے بجانے کی آواز آتی ہے اور لوگ وہاں آمد و رفت رکھتے ہیں تو یہ شیطان صاحب خانہ کے بدن میں پھونکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اگر اس کی ناموس سے کھلواڑ کیا جائے تو بھی اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔^۱

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

جس شخص کے گھر سے چالیس دن گانے بجانے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو خداوند علم اس پر ایک شیطان مسلط کرتا ہے اور اس کے اعضاہ بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوتا جس پر شیطان نہ بیٹھتا ہو اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کی شرم و حیاء اس طرح رخصت ہو جاتی کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے بارہ میں کیا کہہ رہا ہے اور وہ دوسروں کے بارہ میں کیا کہہ رہا ہے۔^۲

۶۵۔ شیطان اور موسيقی کے آلات: (غنا، لہو و لعب)

جب حضرت آدم ابوالبشر کا انتقال ہوا تو ابليس اور قabil بہت خوش ہوئے اسی طرح شیطان نے قabil کو بہکا کر ساتھ لیا قص و غنا و موسيقی کے آلات بنائے اور حضرت آدم کی موت پر جشن منایا، یہی وجہ ہے کہ روئے زمین پر ہروہ ساز کہ جو بھایا جائے یا ہروہ آواز جو غنا ہو اور ہر طرح کی موسيقی کے آلات اور لوگوں کا

^۱ مجمع الصادقین جلد ۵ ص ۶ و ص ۲۹۵، تفسیر الشیعی جلد ۷ ص ۳۰۸

^۲ عيون الاخبار الرضا جلد ۲ ص ۳۰، بحار الانوار جلد ۸ ص ۳۰۹

۶۶۔ شیطان پانچ طرح کے لوگوں کو نہیں بہکا سکتا:

(خلاص، ذاکر، عادل، صابر، راضی)

شیطان کہتا ہے پانچ طرح کے لوگوں پر میرا کوئی بس نہیں ہے اور ان پر میرے مکروہ فریب کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن دوسرے لوگ میرے چنگل میں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو پاک نیت کے ساتھ خدا کی پناہ حاصل کر لے اور اپنے تمام امور میں خدا پر بھروسہ کرے۔

دوسرے وہ جوشب و روزحمد و شنا اور خدا کی تسبیح زیادہ کرے۔

تیسرا وہ شخص جو دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جو چیز خود اپنے لیے ناپسند کرے اسے اپنے دینی بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔

چوتھے وہ شخص جو مصیبت کے وقت بے چینی اور بے تابی کا مظاہرہ نہ کرے اور نالہ و فریاد لعنت اور ملامت اور بیہودہ گوئی سے پر ہیز کرے۔

پانچویں وہ شخص جس کے لیے خدا نے جو کچھ مقرر فرمایا ہے اس سے راضی رہے اور رزق و روزی کے لیے غم و غصہ میں بٹلانہ ہو۔^۱

^۱ خصال باب خمسہ ص ۷۳، بخار الانوار جلد ۲۰ ص ۲۲۸، میزان الحکمت جلد ۵ ص ۹۱

تاچنا اور تھر کنا جس سے وہ محفوظ ہوں ان تمام چیزوں کا سرچشمہ شیطان اور قاتل کا کام ہے۔^۲

رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں:

کہ خوشی کے وقت جو ساز و آواز ہو و لعب کی محفل میں بلند ہوتی ہے وہ شیطانی آواز ہے۔^۳

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

اللَّهُ یسْخَطُ الرَّحْمَنَ وَ یَرْضِی الشَّیطَانَ
لہو و لعب خدا کے غیظ و غضب اور شیطان کی خوشنودی کا سبب
ہے۔^۴

موسیقی اور غنا والگ الگ مسئلے ہیں جن کا فقہی حکم واضح ہے، ہمارے قارئین اس سلسلہ میں اس بات پر توجہ کریں کہ ایک موسیقی مست کرنے والی اور اخلاق پر مداراً شرعاً لئے والی جو لہو و لعب کی محفلوں میں بجائی جاتی ہے وہ حرام ہے۔

لیکن وہ موسیقی جو قومی اور مذہبی نغموں اور ترانوں کے ساتھ جو سماج کے اخلاقی اور الہی مسائل کے رشد و نمو کا سبب بنتی ہے وہ حرام نہیں ہیں اور اس سے صحیح طریقہ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

۷۶۔ شیطان اور پرہیزگار لوگ: (عاقبت مُتّقین کے لیے ہے)

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ ذکر خدا کرتا تھا اور ہمیشہ "الحمد لله رب العالمين والعقاب للمتقين" حمد و شکر اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے اور بہترین انجام پرہیزگاروں سے مخصوص ہے، کہا کرتا تھا۔ اس شخص کے اس عمل سے شیطان بہت ناراض تھا لہذا ایک شیطان کو اس کے پاس بھیجا اور کہلا�ا کہ وہ "والعقابة للاغنياء" عاقبت دولت مندوں کے لیے ہے، کہا کرے۔ اس شیطان نے اسے نیاز کر سکھانا چاہا اس شخص نے جواب دیا میں تمہارے بتائے ہوئے ذکر کو درست نہیں سمجھتا ہوں اور اسے نہیں پڑھوں گا۔ لیکن وہ اس ذکر کے غلط ہونے کے باوجود میں تم سے شرط لگا سکتا ہوں اور اس کے لیے کسی فیصلہ کرنے والے شخص کو (حکم) بناسکتا ہوں یعنی جو شخص سب سے پہلے دکھائی دے جائے اس کے فیصلہ پر راضی ہو جاؤں گا اور وہ جس کے خلاف فیصلہ کرے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔

اس طے توڑ کے بعد ایک شخص سامنے آیا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہہ دیا کہ عاقبت دولت مندوں کے لیے ہے لہذا شیطان نے اس شخص کا داہنا ہاتھ کاٹ لیا لیکن وہ پہلے کی طرح خدا کی حمد و ثناء کرتا رہا اور کہتا رہا کہ عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ شیطان کو حیرت ہوئی اس نے کہا کہ ہاتھ کٹنے کے

بعد بھی وہی پہلے والا ذکر پڑھ رہے ہو، اس شخص نے کہا میں یہی پڑھوں گا اور اس کے صحیح ہونے پر دوسرے ہاتھ کی بازی لگاسکتا ہوں اتفاق سے دوسری مرتبہ بھی اسی پہلے والے فیصلہ کرنے والے سے ملاقات ہو گئی اور اس نے وہی پہلا والا فیصلہ کہ عاقبت دولت مندوں کے لیے ہے کہا۔ شیطان نے اس کا بیان ہاتھ بھی کاٹ لیا لیکن وہ شخص اسی طرح خدا کی حمد و ثناء کرتا رہا اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے پڑھتا رہا۔ تیسرا مرتبہ اس نے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سر کی بازی لگادی۔ اس مرتبہ فیصلہ کے لیے ان کی ملاقات ایسے شخص سے ہوئی جو صارخ مُتّقی، نیک اور خوبصورت تھا۔ جب اس سے تمام باتیں بتائیں تو اس نے اس شخص کے ہاتھوں کی جگہ ہاتھ پھیرا تو وہاں ہاتھ جڑ گئے اس کے بعد اس خبیث کی گردان پر ایک محکم وارکر کے اسے جدا کر دیا اور کہا: "هذا العاقبة للمتقين" یہ دیکھو عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

اشعر قلبك التقوى و خالف الهواي تغلب
الشيطان

اپنے دل کو تقویٰ اور پرہیزگاری کا لباس پہنا اور نفسانی خواہشات
کی مخالفت کروتا کہ شیطان پر غلبہ پاسکو۔ ۲

سبائق الذهب في بيان حقائق الذهب حدیث ۲۲۰ شیخ حسین بختانی

خراسانی۔ ۶۶۲ میں بدلتان الدین، احمد، الحبیب، ملقاب،

غزال حکم جلد ۲ ص ۱۹۵

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لکلٰ شیء معدن و معدن التقویٰ قلوب العارفین
هر چیز کا ایک خزانہ ہوتا ہے اور تقویٰ کا خزانہ اور اس کا گنجینہ معرفت
والوں کے دل ہیں۔^۱

۶۸۔ شیطان اور مال اندوزی: (قارون کا خزانہ)

قارون حضرت موسیٰ کا چچازاد بھائی^۲ تھا اور موسیٰ کے بعد علم و
دانش اور خوبصورتی میں کوئی اس کے برابر نہیں تھا، توریت تمام لوگوں سے زیادہ
احمقی پڑھتا تھا اور اس کی آواز بھی شاندار تھی مال و دولت کے اعتبار سے بھی اپنے
زمانہ میں بے مثال تھا اس معاملہ میں کوئی اس کی گرد پا کو نہیں پاسکتا تھا۔ اس کا
مال اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنے خزانوں کی چابیاں چڑھے کی بنوار کھی تھیں
کیونکہ لوہے کی چابیاں لانا لے جانا اور اٹھانا ذمہ داروں کے لیے مشکل کام تھا
اور چڑھے کی چابیاں ہونے کے باوجود اسے کئی لوگ اٹھاتے تھے۔ بعض
مفہرین کا خیال ہے کہ وہ علم کیمیا جانتا تھا جس کی وجہ سے روز بروز اس کی دولت
میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس میں سرکشی اور طغیانی پیدا ہو گئی اور قوم
بنی اسرائیل کے مومنین کی نصیحتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ اس پورے مال کو
اپنے علم و دانش اور ہوشیاری کا نتیجہ سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو خداوند عالم سے بے

^۱ ارشاد القلوب جلد اص ۱۵، میزان الحکمت جلد ۹، ص ۶۳۳

^۲ بعض لوگ اسے حضرت موسیٰ کا چچا اور بعض لوگ خالزاد بھائی کہتے ہیں۔

نیاز خیال کرتا تھا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتنی دولت و ثروت اکٹھا ہونے کی وجہ اس کی
چالیس سال کی عبادت ہے جو اس نے ایک غار میں کی تھی اور عبادت میں بنی
اسرائیل پر اس نے سبقت حاصل کر لی تھی۔ ایک دن ابنیں نے کچھ شیاطین کو
اس کے پاس فریب دے کر گمراہ کرنے کے لیے بھیجا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے تو
خود ابنیں عابد کے بھیس میں اس کے پاس آیا اور اسی کے برابر مصلحت بچھا کر
عبادت میں مصروف ہو گیا اور اس نے قارون سے زیادہ عبادت کی، قارون اس
کے سامنے بہت زیادہ انکساری کرتا تھا۔

ایک دن ابنیں نے قارون سے کہا کیا ہم اپنی اسی عبادت پر خوش رہیں
اور کوئی دوسرا کام نہ کریں مثلاً اجتماعی کاموں میں شرکت، مریضوں کی عیادت
تشیعی جنازہ وغیرہ آخر کار ان دسوسوں کے ذریعہ شیطان نے پہاڑ کے اوپر سے
اسے شہر کی عبادت گاہ میں پہنچا دیا۔ بنی اسرائیل ان دونوں کے لیے کھانا بھیجتے
تھے کچھ دن کے بعد ابنیں نے کہا اس طرح ہمارا بوجھ قوم کے اوپر ہے کیوں نہ
جمع کے دن کام کریں اور بقیہ ایام میں عبادت کریں۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔
کچھ دنوں بعد ابنیں نے کہا کیوں نہ ایک دن عبادت کریں اور ایک دن کام
کریں اور آدمی کو فقراء اور مساکین کی مدد میں خرچ کریں۔ قارون نے جیسے ہی
اسے قبول کیا ابنیں وہاں سے کھسک گیا اور قارون پر مال و دولت کے دروازے
کھل گئے اور اس کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔

ایک دن قارون نے اپنی دولت اور شان و شوکت کو دوسروں کے سامنے

لانے کا انتظام کیا جا ہرات سے آ راستہ نفس ترین لباس زیب تن کیا اور اپنے طرف داروں کے درمیان شان و شوکت کے ساتھ آیا جس سے ظاہرین افراد کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور ان کے دل میں اس مقام و دولت کے حاصل کرنے کی آرزو کروٹیں لینے لگیں لیکن حقیقت پسند افراد پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے اس معاملہ کو بالکل اہمیت نہیں دی۔

قارون کی دولت میں اضافہ سبب بنا کے وہ دھیرے حضرت موسیٰ سے مقابلہ اور ان کے سلسلہ میں نفاق کا روایہ اختیار کرے اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ان کے خلاف بھڑکائے ہے اس نے ایک بڑا گھر بنایا اور اس میں لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ بنی اسرائیل کے بزرگ صح و شام اس گھر میں جاتے تھے۔ کھانا کھاتے اور آپس میں بحث و گفتگو کرتے گویا قارون جناب موسیٰ کے لیے دوسرا فرعون بن گیا۔

حضرت موسیٰ بھی رشتہ داری کی وجہ سے اس سے اچھے طریقہ سے پیش آتے تھے اور اس کی اذیت و آزار کوہنس کر برداشت کر جاتے تھے یہاں تک کہ زکات کا قانون نازل ہوا۔ موسیٰ نے زکات و صول کرنے کے لیے کسی کو قارون کے پاس بھیجا، قارون نے بہت حساب کتاب اور کوشش کی لیکن اپنے آپ کو زکات کی ادائیگی کے لیے آمادہ نہ کر سکا ہے اس نے جناب موسیٰ کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی اور لوگوں کو ان کے اطراف سے پرانگدہ کرنے لگا۔

قارون نے اپنے گھر میں بنی اسرائیل کے بڑے گروہ کو جمع کیا اور کہا: موسیٰ نے تمہیں جن باتوں کا حکم دیا تم نے اس پر عمل کیا لیکن اب وہ تمہارے مال کے

درپے ہیں۔

لوگوں نے پوچھا کیا کرنا چاہیے، قارون نے کہا فلاں فاحشہ عورت کو میرے پاس بلا لوٹتا کہ میں کوئی ترکیب نکال سکوں، وہ عورت آئی، قارون نے اس سے وعدہ لیا اور اسے پیسے دیجے۔ بعضوں نے کہا کہ اسے سونے کی لگن تھیں میں دی اور بھی بہت سی باتوں کے وعدے کیے تاکہ وہ بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہو کر موٹی کو اپنے ساتھ زنا کی تہمت دے۔

دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کیا اور موٹی کے پاس آیا اور کہا لوگ آپ کے منتظر ہیں کہ آ کر انھیں احکام الہی بتائیں اور وعظ و نصیحت کریں، (موی) علیہ السلام مجمع میں آئے اور نصیحت شروع کی اے بنی اسرائیل جو شخص چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو شخص دوسرے پر تہمت لگائے گا اسے ۸۰ تازیا نے لگائے جائیں گے جو کنوار ازنا کرے گا اسے سوتا زیانہ مارا جائے گا اور جو شادی شدہ زنا کرے گا اسے سنگسار کیا جائے گا۔

اس وقت قارون کھڑا ہوا اور بولا چاہے وہ تم خود کیوں نہ ہو کہا: ہاں چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کہتے ہیں تم نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ موسیٰ تھجت سے پوچھا: میں نے؟۔ قارون نے کہا: ہاں تم نے۔ موسیٰ نے فرمایا: اس عورت کو بلا وجب اس عورت کو لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا میں نے تیرے ساتھ یہ بدکاری کی ہے اسے قسم دی کہ وہ بچ بچتا ہے وہ عورت سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے کہا نہیں! یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور بچ یہ ہے کہ قارون نے مجھے پیدا دیا ہے اور وعدہ لیا ہے کہ میں تم پر یہ

خداوند عالم سورہ قصص کی ۲۷ اور ۸۲ نمبر کی آیتوں میں قارون کے واقعہ کو دوسروں کی عبرت اور نصیحت کے لیے فرماتا ہے۔

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو
في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين من جاء
بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا
يجزئ الذي عملوا السياسات إلا ما كانوا يعملون
یہ دار آخرت وہ ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو
زمین میں بلندی اور فساد کے طبلگار نہیں ہوتے ہیں اور عاقبت تو
صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے، جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس
سے بہتر اجر ملے گا اور جو کوئی برائی کرے گا تو برائی کرنے والوں کو
اتفاقی ہی سزا دی جائے گی جیسے اعمال وہ کرتے رہے ہیں۔

۶۹۔ شیطان اور علماء اور دانشمندان: (بلعم باعورا فریب کا نمونہ)

ایک شیطان صفت عالم جو فریب، دکھاوا، جھوٹ اور خود فراموشی کا نمونہ ہے وہ ہے ”بلعم باعورا“ قرآن کریم اس کے سلسلہ میں فرماتا ہے: اے ہمارے پیغمبر! لوگوں کو آپ اس ”بلعم باعورا“ کی داستان بتائیں جسے ہم نے اپنی

الزام لگا وں قارون اس بات سے بہت شرمندہ ہوا اور اس کی بڑی رسوانی ہوئی جناب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گر گئے اور روکر بارگاہ خدا میں عرض کیا: پروردگار! تیرے دشمن نے مجھے آزر دہ خاطر کیا ہے اور مجھے رسوا کرنا چاہا ہے اگر میں تیر اسچانی ہوں تو اس سے میرا انتقام لے اور مجھے اس پر مسلط فرم۔

خداوند عالم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میں نے زمین کو تمہارے اختیار میں قرار دیا ہے اسے جو کچھ حکم دو گے وہ انجام دے گی۔ جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رخ کر کے فرمایا: خدا نے جس طرح مجھے فرعون کی طرف بھیجا تھا اسی طرح اب مجھے قارون کی طرف مبعوث کیا ہے لہذا جو شخص اس کے ساتھ ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے اور جو شخص میرے ساتھ ہے اس سے دور ہٹ جائے۔ بنی اسرائیل یہ سنتے ہی قارون کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے اور دو آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ بچا، اس وقت جناب موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ انھیں نگل لے، زمین پھٹی اور وہ لوگ زانوٹک دھنس گئے۔ جناب موسیٰ کے دوبارہ حکم دینے سے کمر تک اور تیسرا مرتبہ گردن تک دھنس گئے چوتھی مرتبہ قارون اپنے گھر اور تمام لوازمات جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے ساتھ زمین میں چلا گیا، ہر بار قارون حضرت موسیٰ سے التماس کرتا تھا کہ اسے بخش دیں وہ رشتہ داری کا حوالہ دیتا تھا اور قسم دیتا تھا لیکن چونکہ بہت دیر ہو چکی تھی اور جو شیطان کا اولاد آدم کے سلسلہ میں منصوبہ تھا مکمل ہو چکا تھا حضرت موسیٰ نے کوئی توجہ نہیں کی اور زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کو مکمل طور پر نگل لے اور ایسا ہی ہوا۔ لے

نشانیاں عطا کی تھیں اور اسے سکھایا تھا لیکن اس نے ان نشانیوں کے احکام سے منہ موز اور نکل گیا اور شیطان نے اس کا پیچھا کر کے اس پر تسلط جمالیا نتیجہ میں وہ گمراہ علماء میں قرار پایا اگر ہم چاہتے تو اس کے درجہ کو ان آیات (علوم) کے ذریعہ ترقی دیتے لیکن (چونکہ جرمیری روشن کے خلاف ہے لہذا اسے اسکے حال پر چھوڑ دیا) پستی کی طرف مائل ہوا اور اس نے اپنی خواہش نفاسی کی پیروی کی وہ خارش زدہ کتنے کی طرح ہے کہ اگر اسے مار کے بھگاؤ تو منہ کھول کر زبان باہر نکالتا اور بھونکتا ہے اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بھی یہی کچھ کرتا ہے (گویا وہ دنیا کا اتنا پاسا ہے کہ سیراب ہوتا ہی نہیں) اور ایسا شخص جو اتمام حجت کے بعد خواہشات نفاسی کی پیروی کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے سخت عذاب میں گرفتار ہے یہ ان لوگوں کی داستان ہے جنہوں نے ہماری آئیوں کو جھٹلایا، یہ داستان ان سے بیان کرو ہو سکتا ہے وہ غور فکر کریں اور بیدار ہو جائیں اور اپنی نجات کے لیے تدبیر کریں۔^۱

بلعم باعوراجناب موسیٰ کے زمانہ کے علماء بنی اسرائیل میں سے تھا کہ حضرت موسیٰ بھی اپنے تبلیغی امور میں اس سے مدلیا کرتے تھے وہ معنویت کے میدان میں اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی اتنا سب ہونے کے باوجود فرعون کی طرف جھکاؤ پیدا ہوا اور اس کی لائچی سے اس نے راه حق سے انحراف کیا اور اپنا سارا مقام و مرتبہ اپنے ہاتھ سے گنو بیٹھا یہاں تک کہ مخالفین موسیٰ کی صفت میں قرار پایا۔

ابتداء میں شیطان اس سے بالکل مایوس تھا کیونکہ مکمل طور پر راہ حق کو اپنائے ہوئے تھا لیکن جب انحراف اور ہوائے نفس کی پیروی کی راہ ہموار ہوئی تو شیطان تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور اس تک پہنچ کر اس کی راہ میں بیٹھ گیا اور اس کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے کر وسوسہ کرنے میں لگ گیا اور آخ رکار سے ہلاکت کے ذلیل تک لے آیا اور گمراہوں اور بد بخنوں کی صفت میں قرار دیا۔ تواریخ و روایات میں منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ کا لشکر شہر "اریحا" کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تو شہر کے لوگ بلعم باعورا کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ ہم سے جنگ کر کے ہم کو ہمارے شہر دیار سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں تم ان کے لیے بددعا کر و بلعم کو اسم اعظم کا علم تھا اس نے جواب دیا میں کیونکر خدا کے رسول اور مؤمنین کے لیے بددعا کر سکتا ہوں جبکہ خدا کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے اصرار کیا لیکن وہ نہ مانا آخ رکار ان لوگوں نے دوسرے طریقوں سے اس پر اس طرح دباؤ ڈالا کہ وہ بددعا کے لیے آمادہ ہو گیا، اٹھا اور اپنی سواری کے گدھے پر سوار ہوا تاکہ بنی اسرائیل کے مقابل پہاڑ پر جا کر بددعا کرے تھوڑا راستہ چلنے کے بعد گدھارک گیا اور زمین پر لیٹ گیا بلعم نے اتر کر اسے اتنا مارا کہ بے زبان جانور اٹھ کھڑا ہوا لیکن چند قدم چلنے کے بعد دوبارہ لیٹ گیا اور تیسری مرتبہ بھی یہی کچھ ہوا یہاں تک کہ خدا نے اسے بوئے اور بات کرنے کی صلاحیت دے دی اور اس نے بلعم سے کہا: وائے ہو تجوہ پر اے بلعم کہاں جا رہا ہے تم دیکھ کیوں نہیں رہے ہو کہ فرشتے مجھے روک رہے ہیں بلعم نے پھر بھی کوئی توجہ نہیں کی وہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے

مقابلہ میں پیوںچ گیا اس نے بدوعا کرنا چاہی لیکن اس پر قادر نہ ہوا اور زبان سے دعا نکلنے لگی اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کام ممکن نہیں ہے اس وقت اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا اب تو "خسر الدنیا والآخرة" کی منزل ہے میری دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو گئیں اور میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا اب صرف مکروہی کے ذریعہ ہی کچھ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر کچھ چیزیں فروخت کرنے کے بہانے موئی کے لشکر میں بھیجو اور ان سے کہو کہ اگر کوئی اس سے چھیڑ چھاڑ کرے یا زنا کرے تو وہ مزاحمت نہ کریں کیونکہ اگر کوئی زنا کرے گا تو وہ ہلاک ہو گا اور اس کے شر سے تمہیں نجات مل جائے گی۔

بلعم کے بتائے ہوئے طریقہ پر عورتوں کو سجا سنوار کر چیزیں فروخت کرنے کے بہانہ لشکر میں بھیجا گیا۔ "زمری بن شلوم" جو شمعون بن یعقوب کے سلسلہ کا سردار تھا اس نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا اور حضرت موئی کے پاس لے آیا اور کہا: آپ کے حساب سے یہ عورت ہم پر حرام ہے لیکن خدا کی قسم ہم آپ کی اطاعت نہ کریں گے اور اس کے بعد اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور اپنے خیمے میں لے جا کر اس سے زنا کیا، لشکر کے دوسرے افراد بھی بدکاری میں مشغول ہو گئے یہی وقت تھا جب خدا نے طاعون کا مرض ان پر مسلط کر دیا اور ایک گھنٹے کے اندر نہیں یاستر ہزار آدمی ہلاک ہو گئے۔

فتخا ص بن عیز ارین ہارون جو لشکر موئی کا سپہ سالا ر تھا وہ اس وقت موجود تھا جب وہ آیا اور اسے معاملہ کی خبر ہوئی تو سیدھے زمری بن شلوم کے خیمہ میں گیا اور اسے اس عورت کے ساتھ جو اس کے ساتھ خیمہ میں تھی قتل کرڈا اور دونوں کی

لاش نیزہ پر اٹھا کر گھمائی اور مناجات کی "اللَّهُمَّ هذَا جزاءٌ مِّنْ يُعَصِّيْكَ" "بِهَارِ الْهَمَاءِ يَا اسْخَنْسَ کا انجام ہے جو تیری معصیت کرے۔ اس وقت خداوند عالم نے طاعون کو بطرف کیا۔

انسانی سماج میں علماء و دانشوروں کا اپنے علم و دانش کو اپنے زمانہ کے ظالموں اور جا بروں کے اختیار میں دے دینے سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے۔

علماء کے اس گروہ کی نشانیاں اور علماتیں ہیں جنہیں مذکورہ بالا آئیوں میں بیان کیا گیا ہے اور ان کے ذریعہ انھیں شناخت کیا جاسکتا ہے یہ لوگ نفسانی خواہشات کے ایسے غلام ہیں جنہوں نے اپنے خدا کو فراموش کر دیا ہو ان کی ہمیتیں پست ہیں جو خدا کی نگاہ میں برتر اور بالا مقام کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے پستی اختیار کرتے ہیں اور اسی کم ہمیتی کی خاطر اپنے تمام امتیازات سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں وہ لوگ شیطانی و موسوسہ کے سخت شکار ہیں اور وہ آسانی سے خریدے اور بیچے جاسکتے ہیں، وہ لوگ یہاں کتنے کی طرح ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتا لہذا راہ حق کو چھوڑ کر بھکلتے پھرتے ہیں اور گمراہوں کی ضلالت و گمراہی میں قیادت کرتے ہیں ایسے افراد کی شناخت اور ان سے سخت پر ہیز ضروری ہے۔
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

ان شرّ الشّرّ شرار العلماء

ل۔ اقتباس از فقص قرآن یا تاریخ انبیاء جلد ۲ ص ۲۳۹ تفسیر مجتبی الصادقین جلد ۳ ص

۱۳۵ تفسیر نمونہ جلد ۷ ص ۱۲، تفسیر المیز ان جلد ۱۶ ص ۲۳۳

۱۶ تفسیر نمونہ جلد ۷، ص

بروں میں بدترین لوگ بربی صفت اور بربی سیرت والے علماء ہیں۔^۱

ایک دوسرے جملہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

وَيْلٌ لِّا مُتَّقٍ مِّنْ عَلَمَاءِ السَّوَاءِ
مِيری امت کے علماء سوے پروائے ہو۔^۲

حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

فَاتَّقُوا الْفَاسِقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَئِكَ فِتْنَةً كُلَّ مَفْتُونٍ۔

دوسرے جملہ میں فرمایا:

اَيَا كَمْ وَالْفَجَارُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَانْهُمْ فِتْنَةٌ كُلَّ مَفْتُونٍ
فاسق و فاجر علماء سے دوری اختیار کرو کہ وہ گمراہوں کی گمراہی کا سبب
ہوتے ہیں۔^۳

۷۔ ایک رات خواب میں شیطان کے ساتھ: (تفکر)

جنید کہتے ہیں: ایک رات خواب میں شیطان کو دیکھا وہ نگاہ خا۔ اس سے کہا:
اے ملعون تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی جو اس طرح نگاہ ہے۔ اس نے کہا کن

۱۔ میزان الحکمت جلد ۲ ص ۵۱، منیۃ المرید شہید ثانی ص ۷۶

۲۔ میزان الحکمت جلد ۲ ص ۵۱۹

۳۔ میزان الحکمت جلد ۲ ص ۵۱۰، بحار الانوار جلد ۲ ص ۱۰۶

لوگوں سے ارے جن سے شرم کرنا چاہیے وہ اس وقت مسجد میں ہیں جنھوں نے
اپنے عمل سے میرے جگہ کو بھون ڈالا ہے اور مپراپورا جسم پکھلا دیا ہے۔

جنید کہتے ہیں ذرے میری آنکھ کھل گئی، مسجد کی طرف بھاگا، مسجد میں چاکر
دیکھا تو ایک گروہ زانوؤں میں سرد یعنی غور و فکر میں مشغول ہے۔ جب ان کی نظر
بھج پر پڑی تو کہاے جنید! ہوشیار رہنا کہیں اس خبیث کی گفتگو تمہیں مفرور نہ
ہوادے۔^۱

حضرت علی فرماتے ہیں:

الْتَّفَّگَرُ فِي مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عِبَادَةُ
الْمَحْلُصِينَ

زمین و آسمان کے ملکوت میں غور و فکر مخلصین (جن لوگوں کو بہکانے
سے شیطان معذور ہے) کی عبادات ہے۔^۲

امام صادق فرماتے ہیں:

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ التَّفَّگَرُ فِي اللَّهِ

فضیلت والی اور بہترین عبادات امور الہی میں غور و فکر ہے۔^۳

امام صادق ایک دوسرے جملہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

۱۔ رسالہ قشیرہ میں ۴۰۸ ص ۷۶، ذیں ۴۰۹ ص ۷۷، تذکرة الاولیاء جلد ۲ ص ۹۶

۲۔ غرر الحکم جلد ۲ ص ۲۹

۳۔ میزان الحکمت جلد ۱ ص ۵۳

تفگر ساعۃ حیر من عبادۃ سنة

تحوڑی دیر غور فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔۔۔

۱۷۔ شیطان اور رات کی سیاہی: (خلاف ورزی)

امام صادقؑ فرماتے ہیں:

شیطان کے یا ورومدگار ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ مشرق و مغرب کو پُرد کر دیتے ہیں اور وہ اکثر لوگوں پر اپنا تسلط جما کران سے رات کی تاریکی میں خلاف ورزی کا کام لیتے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے دور تاریکی تہائی اور خاموشی سے استفادہ کرتے ہوئے چوری، قتل، زنا اور ہر طرح کی برائی پر آمادہ کرتے ہیں۔

البتہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سکوت، تہائی اور رات کی تاریکی سے استفادہ کرتے ہوئے خدا سے مناجات کرتے اور نیک کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔۔۔

۲۷۔ شیطانی خواب: (وضوء و طهارت)

دعا کے لیے فضیلت والا وقت صحیح و شام کا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو خدا کو یاد رکھتے ہیں وہ صحیح "بسم الله الرحمن الرحيم" کے ذکر کے ساتھ

اپنے گھر سے نکل کر کام پر جاتے ہیں اور اپنے روزانہ کے امور سے فارغ ہو کر شام کو دعاء و ذکر کے ساتھ اپنے بستر پر آرام کرتے ہیں۔

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

ابیس ملعون اپنے لشکر کو رات ہوتے ہی بکھیر دیتا ہے اسی طرح طوع صح ہوتے ہی اپنے لشکر کو پھیلا دیتا ہے۔ (اور لوگ معمول کے مطابق اپنے کام دھام میں مشغول ہو جاتے ہیں) لہذا ان دو وقت میں زیادہ ذکر خدا کرو اور ابیس اور اس کے لشکر سے خدا کی پناہ مانگو کیونکہ یہ دونوں وقت غفلت کی گھریان ہیں اکثر لوگ انھیں موقع پر خدا کو بھلا دیتے ہیں لہذا ہوشیار ہو خدا سے غافل نہ ہو ورنہ لا محالہ اس غفلت کے سبب ابیس ملعون کے جال میں پھنس جاؤ گے۔۔۔

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

ان کان الشیطان عدوًا فالغفلة لماذا؟

اگر شیطان تمہارا دشمن ہے تو پھر یہ غفلت اور فراموشی آخر کس لیے ہے۔۔۔

۳۷۔ شیطانی خواب: (وضوء و طهارت)

ابیس ملعون کا (هزرع) نامی ایک لشکر ہے جو هر رات کو مشرق اور مغرب کو پُر کر دیتا ہے اور لوگوں کے خواب میں آتا ہے جس کی وجہ سے لوگ الٹے سیدھے

خواب دیکھتے ہیں۔^۱

اس سے قبل اشارہ ہو چکا ہے کہ طہارت ووضو کے ساتھ ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللئے سید ہے خواب نہیں دیکھتا اور یہ عمل شیطان کو آدمی سے دور رکھتا ہے۔^۲

۷۔ شیطان کو سرگوں کرنے کا ذریعہ: (زبان پر قابو)

ایک بد عرب دور راز کا سفر طے کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ہبہ تیس بہشت میں جائے کا سبب ہوں انھیں مجھے بتائیے آپ نے اسے پانچ اخلاقی باتیں بتائیں فرمایا:

- ۱۔ بھوکے کھانا کھاؤ۔
- ۲۔ پیاسے کو پانی پلاو۔
- ۳۔ نیکیوں کا حکم دو۔
- ۴۔ ہر انجوں سے روکو۔
- ۵۔ اور اگر مذکورہ بالا امور تمہارے ہس میں نہ ہوں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور خیر و نیکی کے علاوہ کوئی بات نہ کرو کیونکہ اس طرح شیطان کو سرگوں کر کے اس پر غلبہ پاؤ گے اور بہشت میں تھہیں جگہ نفیسب

ہو گی۔^۱

۸۔ شیطان کی نظر میں بہتر اور بدتر لوگ: (کنجوس اور سجنی)

ایک دن یحیی بن زکریا نے ابليس کو دیکھا تو اس سے کہا یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں محبوب ترین اور مبغوض ترین شخص کون ہیں؟ ابليس نے کہا میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ”کنجوس مومن“ ہے اور سب سے مبغوض ترین شخص سجنی فاسق ہے!

حضرت یحیی نے وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، مومن میں بجل جیسی بری صفت نے مجھے اس کے بہکانے کی زحمت سے بچالیا ہے اور اس کی یہ صفت اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے یہ صفت خود اسے گناہوں کی طرف کھینچتی ہے لیکن خوف ہے سخاوت مند فاسق کے سلسلہ میں کہ کہیں اس کا عمل قبول نہ ہو جائے اور سخاوت کے سبب اسے راہ حق کی ہدایت نہ ہو جائے اور وہ اپنے فرق و فجور سے تو بہ کر کے نجات نہ پا جائے۔ اس کے بعد شیطان نے جناب یحیی سے منہ پھیر لیا اور کہا اگر تم یحیی نہ ہو تو تے تو میں تم سے یہ باتیں نہ بتاتا۔^۲

۱۔ مجموعہ رام جلد اص ۱۰۵ ”باب سکوت و حفظ زبان“

۲۔ صحیح البیضاۃ جلد ۶ ص ۷۷، احیاء العلوم جلد ۳ ص ۲۲۳، کیمیائے سعادت جلد ۲

۱۔ روشنۃ الاولاعظین ص ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۱۵۹، امامی شیخ صدقہ مجس ۲۹ ح ۷۱

۲۔ اوسیں واقعہ کے ذیل میں ملاحظہ ہو

ڈانٹا اور کہا: ”ارکب یا شیطان“ اے شیطان سوار ہو۔
شیطان نے سن لیا اور وہ گدھے کے ساتھ کشتی میں داخل ہو گیا اور جناب نوح کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ جب کشتی روانہ ہوئی تو آپ کی نظر شیطان پر پڑی۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کس کی اجازت سے کشتی میں سوار ہوا ہے؟ تو اس نے کہا آپ ہی نے تو ”ارکب یا شیطان“ کہہ کر مجھے سوار ہونے کی اجازت دی ہے۔

اے نوح تم نے جو ہمارے حق میں نیکی اور خیر خواہی کی ہے اس سے میری گردن پر ایک حق آگیا ہے جسے میں ادا کرنا چاہتا ہوں، جناب نوح نے پوچھا وہ حق اور خیر خواہی کیا ہے؟— اس نے جواب دیا: آپ کی بدعا سے پوری قوم ہلاک ہو گئی، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو میں حیران تھا کہ اتنی بڑی آبادی کو کس کس طرح بہکاؤں آپ نے بدعا کر کے میری مشکل آسان کر دی، نوح سمجھ گئے کہ شیطان انھیں سرزنش اور ملامت کر رہا ہے، آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا، کہا جاتا ہے کہ طوفان کے بعد پانچ سو سال تک روتے رہے اسی وجہ سے ان کا لقب نوح لے پڑ گیا اور نہ اس سے پہلے انھیں ”عبد الجبار“ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس وقت خدا نے ان پر وحی کی کہ شیطان کی باتیں سن لو۔ آپ نے شیطان سے فرمایا: جو کہنا ہو کہو!

شیطان نے کہا میں آپ کو چند خصلتوں سے منع کرتا ہوں:-

۱۔ پہلے یہ کہ غرور سے پر ہیز کرو کیونکہ سب سے پہلا گناہ جو خدا کا ہوا

۶۔ ابلیس کی نصیحتیں: (غصہ، کنجوی، عورتیں)

ایک دن ابلیس حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں تین چیزیں سکھانے آیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا: وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ابلیس نے کہا:

۱۔ غصہ کی زیادتی اور تیزی سے ہوشیار رہو کیونکہ جو شخص غصہ کی تیزی کا شکار ہو جائے میں اس سے اس طرح کھلیتا ہوں جیسے بچے گیند سے کھلتے ہیں۔

۲۔ عورتوں سے ڈر کیونکہ گمراہی کے لیے عورتوں کے جال سے زیادہ میں کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں۔

۳۔ کنجوی سے بچو کیونکہ جو شخص بخیل ہو گا میں اس کے دین ایمان اور دنیا کو تباہ و بر باد کر دوں گا۔

۷۔ شیطان اور کشتی نوح: (غور، حرص، نامحرم کے ساتھ تہائی)

جس گھری جناب نوح نے کشتی بنائی تیار کر دی اور اس میں طرح طرح کے حیوانات کے جوڑوں کو سوار کرایا، لیکن گدھا کشتی سے باہر ہی رہ گیا آپ نے اسے سوار کرنے کی بہت کوشش کی آخر کار آپ کو غصہ آگیا اور آپ نے اسے

ہے وہ اسی غور کی وجہ سے ہوا ہے جب پروردگار نے مجھے تمہارے باپ آدم کا
سجدہ کرنے کا حکم دیا اگر غور نہ کرتا اور سجدہ کر لیتا تو مجھے عالم ملکوت سے باہر نہ
کیا جاتا۔

۲۔ دوسرے حرص سے بچوں کیونکہ خداوند عالم نے تمہارے باپ آدم
کے لیے پوری بحث حلال اور مباح کر دی تھی اور صرف ایک درخت سے منع کیا
تھا لیکن اس صفت نے انھیں اس شجر ممنوعہ سے کھانے پر آمادہ کر دیا پھر جو نیچجہ
بھگلتا تھا وہ بھگلتا۔

۳۔ تیرے یہ کہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہنا مگر
یہ کہ کوئی تیرسا بھی وہاں موجود ہواں لیے کہ اگر کسی تیرے شخص کے بغیر تنہائی
ہوگی تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور اتنا وسوسہ کروں گا کہ تم لوگ زنا پر آمادہ
ہو جاؤ گے۔

ان جملوں کے بعد خدا نے حضرت نوح پر وحی کی کہ اے نوح شیطان کی
باتوں کو مان لو۔

۸۔ شیطان کا مضبوط جال: (عورتیں)

ایک دن شیطان نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے آدمیوں کے شکار
کے لیے مضبوط جال چاہیئے خدا نے سونا، چاندی، حیوانات اور گھوڑوں کے گلے
اسے بتائے اور فرمایا: ان چیزوں کے ذریعہ انسانوں کو فریب دے سکتے ہو،

شیطان پہلے تو خوش ہوا بعد میں اس کا منہ پھر لٹک گیا کہ نہیں یہ جال مضبوط نہیں
ہے تو خداوند عالم نے قیمتی جواہرات کے معدن اسے دکھائے اور فرمایا: لو یہ ایک
دوسرے جال ہے۔ اس نے عرض کیا: مجھے مزید چاہیئے خدا نے چنانی، مٹھاں، اور
لذت بخش مشروبات اور قیمتی اور نقیصہ لباس دکھایا۔ شیطان نے پھر بھی اپنا مطالبہ
جاری رکھا کہ اور چاہیئے کہ آدمی کو آگ کی رسمی سے باندھ دوں کیونکہ مجھے پتہ
ہے کہ تیرے جمال و جلال کے شیدائی ان رسیوں کو توڑ کر نکل جائیں گے اس
جال میں صرف غیر لوگ پھنسیں گے اس طرح دو گروہ ایک دوسرے سے جدا
ہو جائیں گے میں ایسے جال کا خواہش مند ہوں جو مردوں کو گرفتار کر سکے خدا نے
شراب اور موسيقی کے آلات اسے دکھائے تو شیطان ہنسنے لگا اور اسے تھوڑی سی
خوشی حاصل ہوئی لیکن پھر بھی اسے دلی مراد حاصل نہیں ہوئی تھی لہذا اس نے
عرض کیا: اے خدا جس نے موئی کو اتنی قوت دی کہ انھوں نے دریا کو اس طرح
شگافتہ کیا کہ اس کی زمین تک خشک ہو گئی اور غبار اڑنے لگا مجھے اس سے زیادہ
مستحکم جال عنایت فرمایا: تاکہ میں اسے آدمیوں کے لیے بام کی طرح استعمال
کر سکوں اور کشاں کشاں اسے بد بخیتوں کی طرف کھینچتا پھرلوں، خدا نے عورتوں
کے جمال کی طرف اس کی راہنمائی کی جو مردوں کے عقولوں کو ناکارہ بنادیتا ہے
اور صبر کو چھین لیتا ہے۔ شیطان اسے دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگا اور کہا اسے مجھے
جلد عنایت کر دے میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔

جناب ابراہیم نے معاد کو ثابت کرنے کے لیے مرغ کو مار کر قیمه کر دیا
تاکہ مردان خدا کو یہ بتادیں کہ مرغ شہوت کی علامت ہے، شہوت پر قابو رکھو

تاکہ خدا کی بارگاہ میں رسائی ہو سکے۔ ۱

۹۔ شیطان کا وسیلہ: (عورتیں)

اس مضمون کی روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک دن ابليس ملعون نے حضرت مسیحیٰ سے کہا: اے تکھی! جب میں لوگوں کو بہکانے سے عاجز رہ جاتا ہوں تو عورتوں کا سہارا لیتا ہوں۔ ۲

پغمبر اسلام فرماتے ہیں۔

اوشق سلاح ابليس النساء۔

شیطان کا سب سے زیادہ مضبوط اور کارگر سلحہ عورتیں ہیں۔ ۳

ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا:

النساء حبالة الشيطان

عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ ۴

۱۔ مثنوی مولوی دفتر پنجم ص ۳۲۵، ماغذ قصص و تمثیلات مثنوی ص ۱۶۳، داستانہائی مثنوی جلد ۳ ص ۷ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلد ۱۱ ص ۳۱۸

۲۔ استغاثہ ص ۷۸

۳۔ نج الفضاح ص ۱۹۶، ص ۳۸۵

۴۔ نج الفضاح ص ۲۳۵، ص ۲۰۷

۸۔ شیطان کی زگاہ: (نظر بازی)

فضیل بن عیاض کہتے ہیں ابليس ملعون کہتا ہے:

النَّظَرُ هِيَ قُوَّسِيُّ الْقَوْيِمَةِ وَ سَهْمِيُّ الدُّلُّ لَا أَخْطِي بِهِ
نَامِرُمْ پُرْنَگَاهُ ۚ إِنَّا مِيرِي مَضْبُوتُكُمَانٍ هُوَ اُورَأِيَا تَيْرِهِ هُوَ جُوكُمِيُّ نَبِيِّنِ

چوکتا۔ ۵

اس سلسلہ میں بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں: امام صادق فرماتے ہیں:

النَّظَرَةُ مِنْ سَهَامِ ابْلِيسِ مَسْمُومٍ

نَامِرُمْ پُرْنَگَاهُ ۚ إِنَّا ابْلِيسُ كَزْهَرِيَّلِيَّ تِيَرُوْلِ مِنْ سِے اِيْكَ تِير
ہے۔ ۶

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

العيون مصائد الشيطان

آنکھیں شیطان کے جال ہیں۔ ۷

لہذا نامِرُمْ اور لوگوں کی ناموس پُرْنَگَاهُ ۚ إِنَّا نَسْ سے پُرہیز کرو۔

آپ ایک دوسرے جملہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

الشهوات مصائد الشيطان،

شہوتوں شیطان کے جال ہیں۔ ۸

۱۔ مجتبی شعبان جلد ۵ ص ۱۸۰

۲۔ غر راجحہ جلد ۷ ص ۲۳۵

۳۔ وسائل الشیعہ جلد ۱۲ ص ۱۳۸

۴۔ غر راجحہ جلد ۱ ص ۱۵۳ و ۲۳۵

۸۱۔ شیطان کے تیر و تلوار اور جال: (نامحرم پر نظر ڈالنا)

فتوات نامہ کے مولف تحریر کرتے ہیں کہ: اگر پوچھا جائے کہ آنکھوں کو کون چیزوں سے بند کرنا چاہیے تو کہو کہ سب سے پہلے نامحرم سے کیونکہ نامحرم کو دیکھنا ایسا زہر ہے جو شیطان کے ہاتھوں سے جس دل پر لگ جاتا ہے تو پھر وہ نجھ نہیں سکتا۔ ۱

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: تمام فتنے تین چیزوں میں خلاصہ ہوتے ہیں۔

۱۔ (جنبی) عورت کی دوستی کیونکہ وہ شیطان کی تلوار ہے۔

۲۔ شراب خواری کیونکہ یہ شیطان کا جال ہے۔

۳۔ دولت پرستی کیونکہ یہ شیطان کا تیر ہے۔

لہذا جو شخص عورت کا دوست ہو گا وہ زندگانی سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ اور جو شخص شراب خوار ہو گا جس اس پر حرام ہو گی اور جو دولت پرست ہو گا وہ دنیا کا زخم رید غلام ہو گا۔ ۲

۸۲۔ شیطان کی روایات: (دیوٹ)

ایک دن جناب نوح نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان ظاہر ہوا اور آپ کی عبادت اور خضوع و خشوع دیکھ کر تملہ اٹھا اور نوح کو مخاطب کر کے کہا: اے نوح

۱۔ وسائل الشیعہ جلد ۱۲ ص ۲۲۸
۲۔ متدرب الوسائل جلد ۲ ص ۵۵۸، ابواب مقدمات نکاح باب ۱۰۳
۳۔ وسائل الشیعہ جلد ۱۲ ص ۱۷۵

۸۳۔ شیطان اور برصیصا عابد: (زناء کا بُر انجمام)

بنی اسرائیل میں ایک گوشہ نشین عابد تھا جو لوگوں سے دور ایک عبادت خانہ میں ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا اور کثرت عبادت کی وجہ سے وہ مستحباب الدعوة ہو گیا تھا اسے برصیصا کے نام سے جانا جاتا تھا۔

اتفاق سے ایک دفعہ بادشاہ کی بیٹی سخت بیمار ہو گئی، ڈاکٹروں نے اس کے علاج سے عاجزی ظاہر کی، ہر قسم کا علاج کیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا آخر کار برصیصا عابد سے درخواست کی گئی کہ وہ بادشاہ کے گھر جا کر اس لڑکی کے شفا کے لیے دعا کرے۔ برصیصا راضی نہیں ہوا لہذا اس کے بھائیوں نے اسے سخت پر لٹا کر عبادت خانہ پہنچایا۔

برصیصا نے ان سے کہا اسے یہیں رہنے دوتا کہ سحر کے وقت جو دعا کے لیے بہترین وقت ہے اس کی شفا کے لیے دعا کروں، بھائیوں نے اسے وہیں چھوڑا اور چلے گئے۔

جب سحر ہوئی تو برصیصا نے اس لڑکی کے لیے دعا کی، اور اسے شفاف بھی گئی۔ شیطان جو برصیصا کی عبادت اور شہرت کے درد سے بے چین تھا اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا اس موقع سے اس نے فائدہ اٹھایا اور عابد کو گمراہ کرنے اور فریب دینے میں مشغول ہو گیا، اس نے اتنا وسوسہ کیا کہ آخر کار شہوت عابد پر غالب آئی اور اس نے لڑکی سے زنا کیا بدکاری کے بعد عابد اپنے کیے پر سخت

پیشان ہوا اور سوچا کہیں لڑکی اس بات کا اپنے بھائیوں سے تذکرہ نہ کر دے اور بادشاہ مجھے ہلاک نہ کر ڈالے لہذا اس نے اپنے نجات کی راہ ڈھونڈنا شروع کر دی، شیطان نے دوبارہ اپنا کام شروع کیا اور اس کے دل میں وسوسہ کیا کہ وہ اسے مار ڈالے اور وہیں دفن کر دے تاکہ اپنے جرم کو چھپا سکے۔ اس نے یہی کیا اور پچھلے دیر میں لڑکی کا جنزاہ اس نے عبادت خانہ کے ایک کنارہ دفن کر دیا اور جب صح کوٹل کی کے بھائی اپنی بہن کو لینے آئے تو عابد نے ان سے کہا کہ: میں نے دعا کی تو وہ شفایا ب ہو گئی اور اچھی ہو کر عبادت خانہ سے باہر چل گئی۔

بھائی اپنی بہن کو ادھرا دھر ڈھونڈھتے پھر رہے تھے کہ شیطان کو موقع ملا اور اجنبی شخص کے بھیس میں وہ ظاہر ہوا اور برصیصا اور لڑکی کا پورا قصہ بتایا اور لڑکی کی قبر تک لا یا اور قبر کھود کر انھیں دکھایا، بادشاہ نے لوگوں کو باخبر کیا اور برصیصا کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے اسے شہر میں لائے اس کی دار کے اطراف میں ایک عظیم مجمع اٹھا ہو گیا، جب اسے چنانی پر چڑھایا جانے لگا تو شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوا اس نے کہا: یہ ساری مصیبیں میری لائی ہوئیں ہیں۔ اب اگر تم سر کے اشارہ سے مجھے معبد مان لو اور مجھ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں نجات دے دوں، عابد جو گناہ کی وجہ سے کو رد ہو چکا تھا اس نے سر سے اشارہ کیا اور شیطان پر ایمان لے آیا، شیطان اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے پاس سے دور چلا گیا۔ عابد چلا یا بھاگوئیں مجھے بچاؤ۔ شیطان نے کہا:

انی برئ منک انی اخاف اللہ رب العالمین

(حشر ۲۶)

میں تجھ سے بیزار اور بربی ہوں اور رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

وہ عابد جس نے سالہا سال اپنی عمر عبادتوں میں بسر کی تھی اس طرح بدجنتی کا شکار ہوا اور دونوں جہان کی رسوائی اس کے حصہ میں آئی۔ ۱۔

شیطان کہتا ہے میں بہت آسانی سے تمہارے ایک ایک شخص کے فکر و اندیشہ میں رسوخ کرتا ہوں اور تمہیں ایسے کاموں پر بتیار کرتا ہوں جس کے کرنے کا تمہارا دل نہیں چاہتا ہے اے انسان یہ سمجھ لے کہ شیطان کے جال سے تجھے نجات نہیں ہے، کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی حفاظت کرتا کہ کسی بھی گناہ کے ذریعہ شیطان کی کمنڈ کا شکار نہ ہو۔

پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

مجری الشیطان الشهوات

شہوتیں شیطان کی گذرگاہ ہیں۔ ۲۔

۱۔ یہ واقعہ مختلف مدارک کے مطابق بعضوں نے مفصل اور بعضوں نے مختصر طور پر تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے جو اعم الحکایات عونی ترجمہ جعفر شمار قسم ص ۳۱۶، گلتان سعدی دیباچہ مجلس چشم، مجمع البیان جلد ۹ ص ۳۳۸، تفسیر نمونہ جلد ۲۳ ص ۵۲۳، منی الصادقین جلد ۹ ص ۲۳۸، تفسیر المیز ان ذیل سورہ حشر آیت ۱۶، مجتبی البیضاوی جلد ۵ ص ۵۶، احیاء العلوم جلد ۳ ص ۲۵، استغاثہ ص ۷۹، کیفر گناہ جلد ۱ ص ۱۷۲، داستانہا و پندہا جلد ۳ ص ۸۶

۸۳۔ شیطان اور قوم لوط: (لواط)

قوم لوط خدا کے بہترین بندے تھے۔ شیطان نے ان کی گمراہی کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا، وہ ہمیشہ گمراہی کے ذریع تلاش کرنے کی فکر میں رہتا۔ افسوس کہ قوم لوط دھیرے دھیرے کنجوی اور بخل کا شکار ہو گئی اور یہی بُری صفت ان کی جنسی شہوت کے لاعلان ج مرض کا علاج بن گئی۔

ابراهیم خلیل اللہ شام کی سرز میں پروردہ ہوئے اور وہاں والوں کو خدا اور دین حق کی طرف دعوت دی اس سے سات فرخ کی دوری پر ایک آباد اور زیز شہر تھا جس کی برکتوں سے گذرنے والے کارروان بھی فیض یاب ہوتے تھے۔

یہ بات قوم لوط کے لیے ناقابل برداشت ہوتی گئی ہے اس کے علاج کے لیے سوچ میں پڑ گئے شیطان نے اس موقع سے فائدہ اور بوڑھے آدمی کے بھیں میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا: میں تمہیں ایسا کام سکھاؤں گا کہ اگر تم اسے انجام دو گے تو پھر تمہارے شہر میں کوئی نہ آئے گا۔

لوگوں نے اس کام کے بارہ میں پوچھا: اس نے کہا جو شخص ادھر سے گزرے اس کے ساتھ بدعلی کرو، اس کے کپڑے اتار کر اسے نگا کر دو، اس کے بعد وہ خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان کے پاس آیا، قوم لوط نے اس کے ساتھ بدعلی کی جس سے وہ بہت خوش ہوئے پھر اس کے بعد وہ سرے مردوں اور لڑکوں سے یہ فعل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ مکمل طور پر ان کے درمیان یہ چیز راجح

کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے یہی وہ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور عمل کرنے کی یہ جزا، ہترین جزا ہے۔

ابیس اس آیت کے نازل ہونے پر بہت غصب ناک ہوا اور مکہ کے ”ثور“ نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیخ پکار مچا دی اس نے اپنے تمام مددگاروں کو ایک انجمن تشکیل دینے کی دعوت دی، اس کی آواز پر سب جمع ہو گئے ابیس نے انھیں اس آیت کے نزول کی خبر دی اور اپنی پریشانی ظاہر کر کے ان سے مدد چاہی۔

ایک شیطان نے کہا: میں اس گناہ یا اس گناہ کے ذریعہ اس آیت کے اثر کو ختم کر دوں گا۔ ابیس نے اس کی بات نہ مانی۔ دوسرے نے دوسری پیش کش کی وہ بھی قبول نہیں ہوئی یہاں تک کہ ایک پرانا تجربہ کار شیطان ”وساس خناس“ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آدمی کو وعدوں اور آرزوؤں کے ذریعہ گناہوں میں ملوث کریں، جب وہ گناہ کر لیں تو خدا کو بھول جائیں اور اس کی طرف واپسی کو ان کے ذہن سے نکال دیں۔

ابیس نے کہا ہاں یہی علاج ہے اور اس ذمہ داری کو جیتنے جی اس کے حوالہ کر دیا۔ انسانوں کو وعدوں اور آرزوؤں کے ذریعہ سے خدا کی یاد سے غافل کرنے کی ذمہ داری دی۔

جو گئی اور آخر کار نوبت یہ آگئی کہ وہ لوگ عورتوں سے بالکل بے گانہ ہو گئے اور اڑکوں کے چکر میں پڑ گئے۔

شیطان نے دیکھا کہ مردوں کے بارہ میں اس کا منصوبہ مکمل طور پر کامیاب ہو گیا ہے اور خاطر خواہ اس کا اثر بھی ہوا ہے تو وہ عورتوں کے پاس آیا اور ان سے کہا: اب جبکہ تمہارے مرد اپنی جنسی خواہش کے بارہ میں ایک دوسرے سے کام چلا لیتے ہیں تو تم بھی اپنی شہوت بر طرف کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کام لو اس وقت انھیں مساحقہ (عورتوں کا جنسی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے عورت پر اکتفاء کرنا) سکھایا۔

۸۵۔ ابیس کی خطرہ کی گھٹی: (آرزو)

جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذَنْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها و نعم اجر العاملين۔

وہ لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم

ہم ”وسواس خناس“ کے شر سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔^۲

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

الامل سلطان الشیاطین علی قلوب الغافلین
بہت زیادہ امیدیں اور آرزو غافلوں کے دلوں پر شیاطین کی سلطنت
و بادشاہی کا ذریعہ ہے۔^۱

۸۶۔ انسانوں کے سر پر شیطان کا تسلط: (غفلت)

ایک زاہد کا بیان ہے کہ وہ اور ایک مومن دونوں دوست تھے ایک دن دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مومن دوست نے پوچھا تم لوگوں کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے کہا: بعضوں کو بیدار اور بعضوں کو سویا ہوا۔ اس نے کہا ان لوگوں کے سر پر جو کچھ ہے اسے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہیں!

اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری آنکھوں پر مل دیئے تو میں نے دیکھا کہ ہر ایک کے سر پر دوپر والا ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے اور کبھی ان پرول کو اس شخص کی آنکھوں پر جھکا دیتا ہے اور کبھی اٹھا لیتا ہے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ شیطان ہیں جو ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی غفلت کے اعتبار سے اس پر غلبہ پاتے ہیں اس کے بعد یہ آیت پڑھی:

^۱ بخار الانوار جلد ۶۰ ص ۷۱، امامی مجلس ۱۷، وسائل جلد ۱۱ ص ۳۵۳، میزان الحکمت جلد

^۲ تفسیر نمونہ جلد ۷ ص ۲۷۵، تفسیر المیز ان جلد ۲۰ ص ۵۵

^۳ غر راحم جلد ۲ ص ۵۸

و من يعش عن ذكر الرّحمن نقىض له شيطانا
 فهو له قرين

جو شخص ذکر خدا اور یاد خدا سے غافل ہو جائے گا، ہم اس کے لیے ایک
شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہو گا۔^۱

۷۸۔ حق کی للبیک: (دعاء)

مولوی تمثیل کے عنوان سے ایک داستان نقل کرتے ہیں کہتے ہیں: ایک شخص تھا جو ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کیا کرتا تھا اور خدا کو پکارا کرتا تھا اور اللہ اللہ کے علاوہ اس کے منھ سے کچھ نہیں نکلتا تھا، ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور وسو سہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا چاہا، اس نے کہا: اے شخص تو ہمیشہ اللہ اللہ اللہ کیا کرتا ہے، حرکے وقت بھی پکارا کرتا ہے آخربھی تجھے اس آواز کا جواب بھی ملا ہے اگر تو کسی عام آدمی کے گھر چلا جاتا اور اتنا پاکارتا تو کم از کم ایک مرتبہ تو تجھے جواب دیا جاتا۔

اس شخص نے دیکھا بات سمجھ آنے والی ہے لہذا اس نے دعا و مناجات چھوڑ دی، خواب میں دیکھا کسی نے اس سے کہا تم نے مناجات کرنا کیوں چھوڑ دی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اتنی مناجات کی اور درد و سوز کے ساتھ خدا کو پکارا لیکن ایک مرتبہ بھی میرے جواب میں للبیک نہیں کہی گئی، ہاتھ نے جواب دیا لیکن مجھے خدا کی طرف سے تمہارے پکارنے پر للبیک کہنے کا حکم دیا

شر سے محفوظ رہنے کے لیے خدا کے نام ”بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰيْهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ“ کے ساتھ شیطان کے سیاہ دل پر لعنت بھیج کر ابلیس ملعون کو خود اپنے آپ سے دور کرتے ہیں اور یہ خدا کے اسماء کی تلاوت کا ایک اثر ہے اور اس کے ذریعہ انسان، شیطان کی خباثت اور اس کے گزندے محفوظ رہتا ہے۔

پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

ہر دل پر شیطان بقضے جمائے ہوئے ہے جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو وہ دور بھاگ جاتا (اور انسان اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے) اور جب اس کا ذکر بھلا دیا جاتا ہے تو شیطان اسے اپنے جال میں پھسا کر مددے کاموں پر آمادہ کرتا ہے۔^۱

حضرت علی ذکر خدا اور تلاوت قرآن کے بارہ میں فرماتے ہیں:

جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو اور خدا کا ذکر ہواں کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے اور فرشتے اس میں آمد و رفت کرتے ہیں اور شیاطین اس سے دور رہتے ہیں اور وہ آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتے ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں لیکن جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی اور خدا کا ذکر نہیں ہوتا تو اس کی برکت کم اور فرشتے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں اور شیاطین اس میں آ جاتے ہیں۔^۲

گیا ہے۔

وہ درد و سوز و عشق جو تمہارے دل میں ہم نے قرار دیا ہے وہ خود ہماری طرف سے لبیک کا ہی نتیجہ ہے۔

حضرت علی علیہ السلام دعا کے کمیل میں عرض کرتے ہیں:

اللّٰهُمَّ اغفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبَسُ الدُّعَاءَ

خدا یا ہمارے وہ گناہ جو دعا کے جس سے ہونے کا سبب مبتے ہیں وہ گناہ جو مناجات کے درد کو چھین لیتے ہیں خدا یا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے۔

اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دعا انسان کے لیے ”مطلوب“ بھی ہے اور سیلہ بھی ہے یعنی دعا ہمیشہ قبول ہونے کے لیے نہیں ہوتی قبول نہ ہو پھر بھی وہ خود ”مطلوب“ ہے۔^۳

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

اَكْثَرُ الدُّعَاءِ تَسْلِمٌ مِّنْ سُورَةِ الشَّيْطَانِ

دعا زیادہ کرو تاکہ شیطان کے قهر و غصب اور سلط سے محفوظ رہو۔^۴

۸۸۔ شیطان کے شر سے پناہ مانگنا: (ذکر خدا، قرآن، اہلیت)

لوگ دن رات خلوت و تنہائی اور کوچہ و بازار اور سڑکوں وغیرہ پر شیطان کے

۱۔ انسان کا مل م ۱۸۰ اسٹاڈ شہید شیخ رضا مطہری

۲۔ میرزاں الحمدت جلد ۵ ص ۹۱

۳۔ عذۃ الدّاعی ص ۲۰۶، مفاتیح الغیب م ۱ صدر اترجمہ خواجوی ص ۳۶۱

۴۔ اصول کافی جلد ۲ ص ۲۱۳

مثلاً موصوین علیہم السلام کے مقدس ناموں کے سلسلہ میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

انَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ مَنَادِيَانَادِيٍّ يَا مُحَمَّدًا يَا عَلِيًّا
ذَابَ كَمَا يَذَابُ الرَّصَاصُ
يَقِيَّنَ شَيْطَانٌ جَبَ مَنَادِيٍّ كَيْ آَوَازَ يَاهُمْ يَا عَلِيًّا مُتَّسِعًا هَيْ لَوْ اس طرح
پَجَّلَتَهُ يَقِيَّنَ پَارَهُ پَجَّلَتَهُ هَيْ لَ

۸۹۔ شیطان اور کتاب خدا: (تلاوت نس، ناس، کافردن)

جو قوم قرآن پڑھتی ہے اس سے دیوبھاگتا ہے۔ ۳
شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن کے بعض سورہوں کی تلاوت
کی تائید ہوئی ہے ایک حدیث میں غیرہ اسلام سے حقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

ان لکلَ شَيْءٍ قَلْبًا وَ قَلْبُ الْقُرْآنِ يَسَّرَ
ہر چیز کے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل نس ہے۔

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جو شخص دن میں
غروب سے پہلے پہلے سورہ نس کی تلاوت کرے وہ پورے دن ہر بلاء سے محفوظ
اور روزی والا ہوگا اور اگر رات میں ہونے سے پہلے تلاوت کرے تو خداوند عالم

اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہزار فرشتے مامور کرے گا اہم
فضل کے ضمن میں بیان ہوا ہے قرآن میں شاید ہی کوئی ایسا سورہ ہو جو نس کے
ہم پر فضیلت رکھتا ہو، البته یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف
لقطیں دھراتے ہیں اور مفہایم ان کی بحث سے بالاتر ہوتے ہیں بلکہ یہ فضیلت اس
عظیم سورہ کے مضمون و مفہوم کی وجہ سے ہے، بیدار کرنے، ایمان تازہ کرنے،
مسئیت کا احساس دلانے اور تقویٰ کی صفت کو جنم دینے والے مفہوم کی وجہ سے
ہے، جب انسان اس کے مفہوم میں غور و فکر کرتا ہے اور یہ تکثر اس کے اعمال پر اثر
انداز ہوتا ہے تو دنیا و آخرت کی بھلائی اس کا استقبال کرتی ہے۔

مثلاً سورہ نس کی آیت ۶۰ میں خداوند عالم کے اولاد آدم سے اس عهد و
بیان کے بارہ میں اشارہ ہے کہ وہ شیطان کی پرستش نہ کریں وہ خلا ہوادش
ہے۔

الْمَاعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بْنَى آدَمَ إِنَّ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ
إِنَّهُ لَكُمْ عَذَّوْمَيْنِ

خاہر ہے اگر انسان خدا سے کیے ہوئے اپنے عہد و بیان کی پابندی کرے تو
جیسا کہ مذکورہ بالاحدیث میں آیا ہے تو ہر طرح کے رویم شیطان کے شر سے محفوظ
رہے گا۔ لیکن اگر اس آئیہ کو سرسری طور پر پڑھے لیکن عمل میں شیطان کا ساتھی،
دوست مخلص اور وفادار ہو تو اس پرے اختخار کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس

سورہ کی تمام آیتوں اور کلمات کا محا سہ کرے اور اس میں تفکر و تدریس سے کام لے۔

سورہ ناس:

سورہ ناس اور فلق کے بارہ میں ذکر ہے کہ انسان ہمیشہ شیطانی و سوسوں کے رو برو ہے اور رحمات اور انسانوں کے شیاطین قلب و روح میں نفوذ کرنا چاہتے ہیں۔

انسان کا علمی مرتبہ جتنا بڑھتا جائے گا اور سماج میں اس کی اہمیت میں اضافہ ہوگا شیطانی و سوسوں اس کے بارہ میں اتنا ہی سخت ہو گا تاکہ اسے راہ حق سے مخفف کر کے ایک عالم کی خرابی سے پورے عالم کو بر باد کر دیں۔

یہ سورہ پیغمبر اسلام کو ایک شمعہ رہنمہ اور بہترین رہبر کے عنوان سے حکم دیتا ہے کہ وہ تمام وسوسہ کرنے والوں کے شر سے خدا کی پناہ مانگیں، اس سورہ کا مضمون سورہ فلق سے ملتا جلتا ہے کیونکہ دونوں میں شر و رواآفات سے خداوند عالم کی پناہ حاصل کرنے کا حکم ہے البتہ ایک فرق کے ساتھ کہ سورہ فلق میں شر کی مختلف قسموں کا تذکرہ ہے لیکن اس سورہ میں صرف نہ دکھائی دینے والے وسوسہ گروں کی بات کہی گئی ہے۔

سورہ کافرون:

سورہ کافرون کے بارہ میں پیغمبر سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: جس نے سورہ کافرون کی تلاوت کی اس نے گویا ایک چوتھائی قرآن پڑھا اور اس سورہ کی تلاوت کرنے والوں سے شیاطین وغیرہ دور رہتے ہیں میں اور وہ ہر طرح کے شرک سے پاک رہتا ہے اور قیامت کے دن کی بخشی اور اس کے خوف و ہراس سے امان میں رہتا ہے۔

ایک چوتھائی قرآن کی تعبیر شاید اس لیے بیان ہوئی ہے کیونکہ اس کی ایک چوتھائی صرف شرک اور بت پرستی سے مقابلہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے جس کا نچوڑ اس سورہ میں موجود ہے اور اس کی تلاوت سے سرکش شیاطین اس لیے بھاگتے ہیں کہ یہ سورہ مشرکین کے سینہ پر گویا دوستخواہ ہے اور یہ واضح بات ہے کہ شرک شیطان کا بہت ہی اہم تھیار ہے۔

آج کل کے زمانہ میں اگرچہ ظاہر لوگوں کی اکثریت مشرک اور بت پرست نہیں ہے لیکن اپنی خواہشات، شہوتیں، ہوس وغیرہ کے مختلف عنوان سے باطنی طور پر مشرک اور بت پرست ہیں اور یہ بت شیطانی نفس کا بات ہے۔

لہذا آئینہ دل کو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں خود ہمارے بارہ میں پتہ چل جائے کہ آیا موحد، مسلمان اور خدا پرست ہیں یا کافر، مشرک اور بت پرست۔

۹۰۔ انسان کا شفاف بدن اور شیطان: (ذکر و یادِ خدا)

صدر المتألهین شیرازی کتاب "مفاتیح الغیب" میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ مجھے دل میں شیطان کے پیشے کی جگہ دکھا دے تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کا جسم شیشہ کی طرح شفاف تھا کہ اندر تک ساری چیزیں دکھائی دیتی تھیں میں نے اس کے شیشہ جیسے بدن میں خوب غور سے جھانک کر دیکھا کہ شیطان مینڈک کی شکل میں دونوں پیچھے دلوں کے درمیان دل کے باہمیں شانہ پر بیٹھا ہے اور اس نے اپنی سوہنڈ جو بہت باریک اور لبی ہے دل میں پوسٹ کر رکھا ہے اور برابر دوسرے کیے جا رہا ہے۔

اس حالت میں جب اس کے دل میں خدا کی یاد پیدا ہوتی ہے یادِ ذکرِ خدا کرتا ہے تو وہ مینڈک اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے شیطان کا جسم ہونا، روح و جسم اور قلب میں یادِ خدا کا اثر اور دوسری طرف یادِ خدا سے دوری انسان کے دل میں شیطان کے دوسرا سبب بنتی ہے۔

الا بذكر الله تطمئن القلوب

خدا کو یاد کرو کیونکہ اس کی یادِ دلوں کو آرام بخشے والی ہے۔
ایک روایت میں رسول اکرم اور ائمہ مصویں علیہم السلام سے نقل ہوا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ پریوجی نازل کی اور فرمایا:

انا جلیس من ذکر نی
میں اس کا ہم شیشہ ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔
حضرت علی فرماتے ہیں:
لکل شی صقالة و صقالة القلوب ذکر الله تعالیٰ
ہر چیز کو میقل کرنے اور چکانے کا آلم ہوتا ہے اور دلوں کو میقل کرنے
والا آلم ذکر خدا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:
ذکر الله جلاء الصدور و طمأنينة القلوب
ذکرِ خدا سیسا کو جلاء اور دل کو آرام بخشے والا ہے۔

۹۱۔ زبان کا کام: (قرآن و حدیث کا ذکر)

فتولت نامہ کے مؤلف لکھتے ہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ کس چیز کے لیے زبان کھلونی چاہیے؟ تو کہو کہ پہلے تو "قرآن" ہی ہے جو خداوند عالم کا کلام اور شیطان رنجیم سے پناہ کا ذریعہ ہے۔

دوسرے: ذکرِ خدا ہے جو دلوں کو جلاء بخشتا ہے۔

تیسرا: رسول خدا ائمہ طاہرین اور خدار سیدہ علما جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں ان کا کلام ہے۔

۹۲- حمال شیطان: (گناہان صغیرہ)

خاتم المحمدین حاج میرزا حسین نوری طبری فرماتے ہیں: جو شخص گناہ میں پڑ جائے گویا وہ شیطان کو اپنے کاندھے پر سوار کرتا، سینہ میں جگہ دیتا، اس کا ہم خیال اور اپنے اعضاء و جوارح پر اسے مسلط کرتا ہے اور نتیجہ میں اس کی پیروی کرتا اور ہر مصیبت و بلہ میں اس کی گناہ حاصل کرتا ہے، اس کے حکم سے ہر بُرے کام کو انجام دیتا اور ہر اچھے کام سے دوری اختیار کرتا ہے اس صورت میں اگر صرف زبانی طور پر اس سے خدا کی گناہ مانگی جائے تو گویا اس نے خدا کی حرمت کو ہلکا کیا ہے حالانکہ خدا فرماتا ہے۔

ولا تَبْعِدُوا خَطُوطَ الشَّيْطَانِ۔

”شیطان کی پیروی نہ کرو۔“^۱

اور یہ بھی واضح رہے کہ شیطان مومن کوشروع سے گناہ کبیرہ پر آمادہ نہیں کرتا ہے بلکہ دھیرے دھیرے اسے گناہ کبیرہ کی طرف کھینچتا ہے۔^۲
حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں: اے دنیادارو! اے خدا کے نالائق بندو! میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چھوٹے گناہ شیطان کے جال ہیں جنہیں شیطان بہت چھوٹا کر کے دکھاتا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا مجمع ہوا اور ایک بارگی اپنی گرفت میں لے لے۔^۳

۹۳- شیطان کی گریہ وزاری: (نزول وحی)

بعثت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ایک ماہ کی مدت لوگوں سے دور غارہ میں جا کر عبادت میں گزارتے تھے اور اکثر اوقات آپؐ کے ساتھ حضرت امیر المؤمنینؑ ہوتے تھے خود حضرتؑ اس بارہ میں فرماتے ہیں: میرے علاوہ کوئی شخص آپؐ کو نہیں دیکھ پاتا تھا، صرف میں تھا جو نور وحی و رسالت کی زیارت کرتا تھا اور نزول وحی کے وقت بیوہت و پیغمبری کی بوسونگھتا تھا۔ جب آپؐ پر وحی نازل ہوئی تو میں نے عجیب آواز سنی میں نے اس بارہ میں آپؐ سے استفسار کیا کہ یہ آواز کیسی ہے؟

حضرتؐ نے فرمایا: یہ شیطان کی آواز ہے جو لوگوں کے مسلمان اور خدا پرست ہونے کی تکلیف سے گریہ وزاری کر رہا ہے۔

چونکہ شیطان جانتا ہے کہ وحی کے پھوٹنے کے بعد لوگ گمراہی و ضلالت کے دل دل سے نکل آئیں گے اور اس کی پیروی نہ کریں گے اسی وجہ سے نا امید ہو کر گریہ وزاری کر رہا ہے۔^۴

۹۴- شیطان سے آنحضرت کی لڑائی: (شیطان کی رسولی)

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: خداوند عالم نے پیغمبر اسلامؐ کے علاوہ

۱۔ نجیب البلاغ فیض خطبہ ۲۲۳ جملہ ۶۳ ص ۸۱۳، بخار الانوار جلد ۲۰ ص ۲۶۳

مک و بادشاہی اور تمام مخلوقات پر غلبہ کی اور کوئی بخشش، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دن آپ نے شیطان کی گرون پکڑی اور مسجد کے ایک گھبے سے لگا کر اس طرح دبایا کہ اس ملعون کی زبان نکل آئی اور آپ کے ہاتھ پر ٹھیکی اس وقت آپ نے فرمایا:

اگر علیماں پیغمبر نے خدا سے دعا نہ کی ہوتی کہ مجھے ایسی سلطنت و بادشاہی دے جیسی کبھی کسی کو نہ دی ہو تو میں تمہیں شیطان کو دکھاتا (اور اس طرح اسے رسوائی کرتا) پہاں تک کہ کوئی بندہ خدا اس پر فریفٹ نہ ہوتا اور وہ کسی کو گراہ نہ کر سکتا۔

۹۵۔ شیطان سے حضرت علی کی ملاقات: (مہلت)

ابن عباس کہتے ہیں ہم لوگ پیغمبر اسلام کے ساتھ اطراف مدینہ کے ایک دڑہ میں تھے کہ اچانگ عجیب طرح کی آواز (حق چق) سنائی دی، پیغمبر اسلام سے اس آواز کے بارہ میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا: یہ ابیس ہے جو اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہا ہے۔ حضرت علی بھی وہاں موجود تھے آپ نے عرض کی میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے شیطان سے خطاب کر کے فرمایا: اے دشمن خدا اپنے آپ کو علی کے لیے ظاہر کر ابیس ظاہر ہوا وہ پستہ قد بوڑھا، واڑھی بال سفید خوداں کے قد سے بڑی واڑھی، دو آنکھیں پیشانی پر اور دو آنکھیں سینہ پر، حضرت علی کی نگاہ بھیسے ہی اس پر پڑی حملہ کر کے اسے گرا دیا اور اس کے سینے پر

۱۔ حجر/۳۸-۳۷

۲۔ داستانہ د چدہ جلد ۳ ص ۱۰۳، تاریخ خلیفہ جلد ۳ ص ۲۸۹، ۲۹۰ ماقبل
خوارزمی ۲۷۶

چڑھ کر بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ: اجازت ہو تو اس کا کام تمام کروں، حضرت نے اور فرمایا: اے علی پھر وقت معلوم تک مہلت کا کیا مطلب ہو گا کیونکہ خدا نے اسے مہلت دی ہے۔

شیطان جب بارگاہ الہی سے نکلا گیا تو اس نے مہلت کی درخواست کی اور خداوند عالم نے اس کی درخواست کو قبول بھی کیا اور فرمایا:

قال فائزٍ من المنظرین إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
هُمْ نَرَوْزُ مُعْتَنِينَ أَوْ رَوْقَتِ مَعْلُومٍ تَكَيْهَ مَهْلَتَ دِي۔

کہا جاتا ہے وقت معلوم سے مراد شاید روز قیامت ہے، یادہ وقت ہے جب اسرافیل پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے یا حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کا زمانہ.....

۹۶۔ امیر المؤمنین کو گالیاں دینا: (دشمن علی)

سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک گروہ حضرت علی پر سب و شتم اور ناسراً گولی کیا کرتا تھا، ایک شیطان ان لوگوں پر ظاہر ہوا، اس سے پوچھا گیا تم کون ہو تو اس نے بتایا میں الامر ہ ہوں۔ انھوں نے پوچھا: تم نے علی بن ابی طالب کے بارہ میں ہماری باتیں سنیں؟۔ اس نے کہا: ہاں سنائے دائے ہو توم پر تم اپنے مولا علی

ابن طالب کو بُرا کہتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب ہمارے مولا ہیں؟۔ اس نے کہا: بقول پیغمبر کہ آپ نے فرمایا: میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں اس کے بعد علی اور ان کے دوستوں کے لیے دعا اور ان کے دشمنوں کے لیے اس طرح بدوعافرمانی: خدا یا جو علی کو دوست رکھے اسے دوست رکھ اور جو علی کو دشمن رکھے اسے دشمن رکھ، علی کی مدد کرنے والوں کی مدد کر اور علی سے جنگ و تیز کرنے والوں کو ذیل خوار فرم۔

ان لوگوں نے پوچھا تم علی کے دوستوں اور شیعوں میں سے ہو؟

اس نے کہا میں ان کے شیعوں اور دوستوں میں سے نہیں ہوں لیکن انھیں چاہتا ہوں اور یاد رکھو کوئی شخص علی سے دشمن نہیں رکھتا مگر یہ کہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں شریک ہوں۔

انھوں نے پوچھا: اے ابو مرزا! کیا تم علی کی کسی فضیلت سے واقف ہو؟
شیطان نے کہا: اے ناکشین (بیعت توڑنے والوں) قاسطین (دشمنوں)
اور مارقین (دین کمال سے تیر کی طرح نکل جانے والوں) کی جماعت سنو: میں نے نبی المیان میں بارہ ہزار سال خدا کی عبادت کی اور جب خدا نے کفر و فساد کی وجہ سے ہلاک کر دیا تو میں نے اس سے اپنی تہائی کا گلہ کیا تو خدا نے مجھے صرف ملائکہ میں آسمان پر جگہ دی میں نے ان کے ساتھ بھی ۱۲ ہزار سال عبادت کی کہ ایک خیرہ کر دینے والا انور ہماری طرف سے گذر اتمام ملائکہ سجدہ میں گر کر سبوح و قدوس کہنے لگے اور کہنے لگے کہ یقیناً یہ نور کسی ملک مقرب یا نبی مرسل کا ہے۔

منادی نے خدا کی طرف سے ندادی کہ یہ نور کسی ملک مقرب یا نبی مرسل کا نہیں ہے بلکہ علی بن ابی طالب کی طینت کا نور ہے۔۔۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

من سب ولی اللہ فقد سب الله
جو شخص امام اور ولی خدا کو بُرا کہے اور گالیاں دے اس نے خدا کو گالیاں دی ہیں۔۔۔

۷۔ صحیح آسان وز مین: (حق و باطل کے پیرو)

اسلامی کتابوں میں حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے متعلق علمتوں میں سے ایک علمت یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: آنحضرت کے ظہور سے پہلے آسان وز مین سے دو سچے سنائی دیں گے۔

ایک آواز اور صحیح آسمانی ہے اور وہ جریئل امین کی آواز ہے حضرت قائم آل محمد سے متعلق جسے مشرق و مغرب والے سین گے سوتا ہوا بیدار ہو جائے گا، کھڑا ہوا شخص بیٹھ جائے گا اور بیٹھا ہوا اس آواز کی وحشت سے کھڑا ہو جائے گا۔ خدا رحمت کرے اس شخص پر جو اس آواز سے عبرت حاصل کرے، اس پر لبیک کہے۔ اور دوسری آواز جو زمین سے سنائی دے گی وہ شیطان ملعون کی ہو گی جو چیخنے گا اور اپنی مظلومیت ظاہر کرے گا اور فتنہ و آشوب کے لیے شک و شبہ پیدا

کرے گا اور لوگ اس کی آواز سے فریب کھا کر حیران رہ جائیں گے اور آخر کار گمراہ ہو کر جہنم کی ۶ گ میں گرفتار ہوں گے۔ لہذا پہلی والی آواز کی پیروی کرو اور ہوشیار ہو کہیں دوسرا آواز کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ اس دن شیطان کی آواز واضح اور ظاہر ہو گی پھر بھی شیطان صفت انسان حق و حکایت سے جنگ وستیز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے آج اگرچہ شیطان کی آواز مخفی ہے لیکن خداوند عالم نے مختلف را ہوں انہیاء اور اولیاء کے ذریعہ اس مخفی آواز کو بندوں پر آشکار کر کے بندوں کے کانوں تک پہنچائی ہے تاکہ وہ اس کے قریب میں آ کر گمراہ نہ ہوں اور مکرات، محنتات اور حق و حقیقت کی ضد سے ووری کریں، لیکن تعمیر قرآن کے مطابق بعض انسان "صم بکم عمي فهم لا يعقلون" گوئے، ہرے، اندھے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ حق کی آواز پر کان نہیں دھرتے اور عقل سیم سے دور جاہلیت کے تحصب سے متاثر ہو کر باطل کی آواز کو غور سے سنتے ہیں جیسا کہ قرآن ان کے حالات کی حکایت کرتا ہے:

الانسان اَنَّهُ كَانَ طَلْوَمًا جَهْوَلًا

حقیقاً انسان بہت زیادہ ستم گرجاہل اور نادان ہے۔
گناہوں کے دل دل میں غوطہ ور ہونے کی وجہ سے کہ جس کی سزا اعداب

۱۔ بخار الائقوار جلد ۵۲ ص ۴۰۵، مهدی مسعود ۹۷، غیرت تعالیٰ یا ب ۱۳ ص ۲۵۳ و مس

۲۔ متنبی الامال جلد ۲ ص ۳۳۲

اور آتشِ جہنم ہے انسان خود پر ظلم و شتم کرتا ہے اور چونکہ گونگا، ہبہ اور اندر ہا ہے لہذا اچھا بُر اسوچنے سے مخدود رہتا ہے اور نتیجتاً شیطان کے گمراہی والے راستہ اور بدختی سے دہباہر نہیں آپتا جیسا کہ قرآن گرم فرماتا ہے:

صم بکم عمي فهم لا يرجعون
گوئے، ہرے اور اندر ہے ہیں اور ہرگز واپس آنے والے نہیں
ہیں۔

۹۸۔ خرونج دجال: (امام زمانہ کے حقیقی مدگار)

ظہور قائم آل محمد کی علمتوں میں سے ایک علامت خرونج دجال ہے، دجال عجیب و غریب شکل و صورت میں ظاہر ہو گا وہ جادو، حیله، فریب اور ہاتھ کی صفائی میں ماہر ہے اس کا منحوس وجود دنیا میں خوب ریزی، نہیں، فحاشی اور فساد برپا کرے گا جب وہ خرونج کرے گا تو بلند آواز سے اس طرح پیچنے گا کہ مشرق سے مغرب تک تمام جن دلنوں میں گے وہ کہے گا: اے میرے دعویٰ میرے پاس آؤ میں نے ہی انسانوں کو بیدار کیا ہے اور انہیں تناسب اعضا دیجے ہیں اور ہر ایک کی روزی مفتر رکی ہے اس کے بعد کہے گا:

اولیائی انا ربکم الاعلى

میرے دعویٰ میں تمہارا بزرگ در تر پروردگار ہوں۔

اس وقت شیاطین، فاسد افراد، ملائیں، ظالمین اور زنازادے اس کے

ہے کہ وہ خود اپنے اندر جھانک کر فیصلہ کر سکے کہ اس کا کردار کس گروہ کے کردار سے ملتا جلتا ہے آیا وہ دجال کے دوستوں میں ہے یا امام زمانہؑ کے اصحاب میں سے ہے۔

۹۹۔ امام زمانہؑ کے ہاتھوں شیطان کی موت: (مہلت کا خاتمه)

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت قائمؑ آل محمدؐ ظہور فرمائیں گے اور مکہ معظلمہ سے کوفہ تشریف لائیں گے آپؑ مسجد کوفہ میں ہوں گے کہ شیطان آپؑ کی خدمت میں حاضر ہو گا اور عاجزی کے ساتھ آپؑ کے قدموں میں پیٹھ جائے گا اور کہے گا۔

یا ویله من هذَا الیوم

وَأَنْهَى هُوَ أَجَّ كَيْ دَنْ پِرْ

اس گھڑی آپؑ شیطان کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کی گردن مار دیں گے یہ وہی دن ہے جسے سورہ حجر آیت ۳۸-۳۷ میں خدا نے ”وقت معلوم“ سے تعبیر کیا ہے۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کے قتل کے بعد کیا ارادہ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے اور انسان فرشتوں کی طرح اطاعت کرنے پر مجبور ہو گا؟ بعض لوگوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ حضرتؐ کے بعد شیطان کا وسوسہ پھیکا پڑ جائے گا اور اس کے بچوں کی حالت اس زمانہ میں ایسی ہو گی جیسے سورج کی روشنی میں چمگاڑوں کی ہوتی ہے ایسی صورت میں یہ شیطان کا وقت پورا ہو گا۔ انسان کی کامل عقل کی نفس پر حکومت کے بعد پھر شیطانی وسوسوں

چاروں طرف اکٹھا ہو جائیں گے، گانے بجانے والے گائیں بجائیں گے اور موسیقی کے رسیانا پختے اور تھر کنے لگیں گے ایسے موقع پر فاسد، فاسق، ضعیف اعقل، جاہل اور نادان زن و مردان آوازوں کو سن کر بے خود ہو جائیں گے اور اس کی طرف مستی میں کھنچتے چلے جائیں گے۔ دجال زنا، افلام بازی اور دوسری تمام بے حیائیاں حلال کر دے گا اور اس کے دوست احباب سور کے گوشت، شراب خواری اور ہر طرح کے فتن و فجور میں افراط سے کام لیں گے۔

لہذا جب دجال ظاہر ہو گا تو اس کا مقصد فتنہ، آشوب اور دنیا میں فساد پھیلانا ہے وہ اپنا کام کر لے گا یہاں تک کہ امام زمانہؑ اور دجال کے لشکر کے درمیان جنگ ہو گی اور وہ ملعون آپؑ کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گا۔

پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: اس زمانہ میں ہر مومن جو دجال کو دیکھے گا وہ اس پر تھوک کے گا اور سورہ حمد کی تلاوت کرے گا تاکہ اس ملعون کا حیله، فریب اور سحر جادو اس پر پاڑنہ کرے۔

اس روایت میں جوبات بہت زیادہ قابل توجہ ہے وہ دجال کے پیروکاروں کی صفات و کردار ہے جو حرام کھانے اور پینے میں بالکل پرواہ نہیں کرتے اور کسی طرح کے بُرے کام میں انھیں شرم و حیا نہیں ہے ان لوگوں سے حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جنگ کریں گے اور اپنی عدالت پھیلانے والی تکوار سے انھیں ٹھکانے لگادیں گے۔ اور یہ بات ہر شخص کے لیے آئینہ کی طرح روشن

فائز کیا تھا جس نے اس میں ایک طرح کی بترتی اور تفویق طلبی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ عبادت کا شوق، اہل زمین میں فیصلہ اور قضاوت کے عمل اور اس کا میابی نے اسے سرکشی پر آمادہ کیا اور وہ گناہ کا مرکب ہوا اور آدم کے بارہ میں اس سے غلطی ہو گئی اور سجدہ نہ کر کے حضرت احادیث کی بارگاہ سے نکلا گیا۔^۱

صدر المتعال ہمین شیرازی فرماتے ہیں جب ابلیس نے خدا کے حکم سے سرکشی کی اور جناب آدم کو بجہہ نہ کیا تو خداوند عالم نے شیطان کو آواز دی اور فرمایا: اے ابلیس تو نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ اگر پہچانا ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا کہ میرے کسی فعل پر اعتراض اور تقدیم جائز نہیں ہے کیونکہ میں معبدو ہوں اور میرے علاوہ کوئی دوسرا معبد نہیں ہے اور میں جو کچھ کروں اس کے بارہ میں مجھ سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔^۲

۱۰۱۔ ابلیس کی چھ ہزار سال کی عبادت: (غیر مخلصانہ عبادت)

امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: شیطان کے بارہ میں خدا کے فیصلہ سے عبرت حاصل کرو کیونکہ اس نے عبادت و بندگی کی اس کی کوششوں کو تجربہ، سرکشی اور غرور کی وجہ سے تباہ و بر باد کر دیا جبکہ اس نے چھ ہزار سال عبادت کی تھی اور جبکہ تمہارا ذہن اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ سال دینیوں سال تھے یا آخرت کے سال تھے جن کا ہر دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوتا ہے اور

^۱ شرح نجح البلاغہ ابن ابی الحدید جلد ۱۳ ص ۹۳

^۲ مفاتیح الغیب ملأ صدر، تبریز جم خواجه جوی ص ۲۳۶

کا کوئی اثر نہیں ہو گا اور چونکہ یہ اصول اور کلیتی ہے کہ ہر مخلوق موجود کو موت آنی ہے اور شیطان کی موت اس طریقہ سے آئے گی۔^۱

۱۰۰۔ شیطان کی بادشاہی: (غورو)

ابن ابی الحدید، نجح البلاغہ کی شرح میں تاریخ طبری کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی ابلیس کے پاس تھی اور اس کافرشتوں کے ایک قبیلہ سے کہ جس کا نام جن تھا تعلق تھا چونکہ ان کا جنت کے خزانوں سے تعلق تھا لہذا اس نام سے پکارے جاتے تھے ان کی اصل خلقت شعلہ و رآتش سے ہوئی تھی اور ابلیس جسے ابتداء میں "حارت"^۲ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا وہ ان کا سپہ سالار تھا۔

جات زمین پر رہتے تھے اس میں انہوں نے تباہی مچائی تو خداوند عالم نے ابلیس کی ہمراہی میں فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے اس میں سے بعض کو قتل کیا اور بعض کو دوسرے جزیروں میں جلاوطن کیا، خدا کی طرف سے اس ڈیوٹی اور ماموریت نے ابلیس میں ایک طرح کا احساس غرور پیدا کر دیا کیونکہ اسے یہ احساس ہو گیا کہ جو کام اس نے انجام دیا ہے کسی دوسرے نے نہیں انجام نہیں دیا۔ دوسری طرف وہ خدا کی عبادت کے سلسلہ میں بہت زیادہ کوشش کرتا تھا۔ خداوند عالم نے خلقت آدم سے پہلے اسے اہل زمین میں قضاوت کے منصب پر

^۱ تفسیر صافی جلد ۳ ص ۱۱۲، تفسیر المیزان، ذیل سورہ حجر آیت ۷، ۳، بخار الانوار جلد ۶۰ ص ۲۲۱ و ۲۵۳، مہدی موعود علامہ مجلی ص ۱۱۳۹، اثبات الہادۃ شیخ حرم عاملی جلد ۷ ص ۱۰۱، تفسیر عیاشی جلد ۲ ص ۲۲۲، داستانہا و پنڈ باجلد ۵ ص ۳۸۔

بیٹھ گیا اور مطلوبہ موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی اور اس طرح اطمینان خیال کیا کہ اگر وقت کے عالموں اور عارفوں نے سنا ہوتا تو دانتوں کے بیچ انگلی دبایتے۔ اے، یہ علم تو تھا لیکن اس کے اندر عشق، مشاہدہ اور ایمان کا تینج نہیں تھا جو اپنا کام کرتا کیونکہ عمل سے خالی علم انسان کو گناہ اور سرکشی پر آمادہ کرتا ہے۔ امام حمیم فرماتے ہیں میں ایسے علم کو جو ایمان سے جڑانہ ہو جاب اکبر سمجھتا ہوں۔ ۲

۱۰۲۔ شیطانی انا: (خود پرستی)

صدر المحتالہیں شیرازی کہتے ہیں شیخ بسطامی سے نقل ہوا ہے انہوں نے کہا: پروردگارا! اگر میں نے کسی دن یہ کہا کہ میں مرتزہ اور پاک ہوں یا اپنی شان اور مقام کو بزرگ سمجھایا اپنے کسی بیان سے اپنی تعریف و تجدید کروں تو یہ انانیت شیطانی ہے اس صورت میں میں کافراً اور مجوہی ہوں۔ لیکن میں اس وقت انانیت کے اس بند کو توڑے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ”اللہ“ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پس اے بندہ خدا یہ جان لے کہ کفر کے بہت سے درجات ہیں، کہ ان میں سے ایک کفر نفس ہے خود خواہی اور خود پرستی ہے کیونکہ نفس حقیقت میں بڑا بات اور طاغوت اعظم ہے لہذا انسان پر اس سے پناہ مانگنا واجب ہے اسے چاہیئے کہ وہ خدا سے اس کفر نفس سے رہائی اور نجات کے لیے دعا کرے۔ ۳

۱۔ تذکرۃ الاولیاء جلد اص ۲۳۳

۲۔ اربعین (چهل حدیث) امام حمیم، ص ۳۸۵ باب ۲۸

۳۔ مناقب الغیب ملا صدر، ترجمہ خواجی ص ۳۸۰

یہ انجام ایک گھٹری کی سرکشی اور غرور کی وجہ سے ہوا جو اس نے اپنے آپ کو برتر سمجھ کر حضرت آدم کو بھجنہ نہیں کیا۔ ۱

۱۰۲۔ عبادت ابلیس کا اجرہ: (دنیوی اجر)

حسن بن عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا: کہ ابلیس کو وقت معلوم تک کی مہلت کیوں دی گئی؟

حضرت نے فرمایا: چونکہ اس نے خدا کی حمد و شنا اور اس کا شکر ادا کیا تھا اس لیے میں نے پوچھا: وہ حمد و شنا کیوں کر کی تھی۔ حضرت نے فرمایا: آسمان پر اس نے چھ ہزار سال عبادت کی تھی۔ ۲

ایک دوسرے جملہ میں فرمایا: شیطان نے دو رکعت نماز چھ ہزار سال میں پڑھی تھی خداوند عالم نے اس کی چھ ہزار سالہ عبادت کا اسے ثواب اور اجر عنایت فرمایا اور وہ ثواب وقت معلوم تک کی مہلت تھی جو اسے دی گئی تھی۔ ۳

۱۰۳۔ توحید ابلیس: (علم، ایمان، عمل)

سہل بن عبد اللہ تستری کہتے ہیں: ایک دن لوگوں کے مجمع میں میں نے ابلیس کو دیکھا میں اس کے قریب گیا اور موقع کا منتظر تھا جیسے ہی وہ اس مجمع سے علاحدہ ہوا میں نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرے پاس بیٹھ کر توحید کے بارہ میں گفتگو نہ کرے گا، وہ میرے اصرار پر

۱۔ نجح البلاغہ فیض الاسلام خطبہ / ۲۳۲ ۲۔ وسیع الشراح جلد ۲ ص ۲۲۳

حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور فرشتوں نے انھیں اپنے حصار میں لے رکھا ہے، ابليس اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور اس نے کہا: اے میرے دوستو! اس زمانہ میں ایک پیغمبر ایمی خاتون سے متولد ہوا ہے جس سے پہلے کوئی عورت اس طرح حاملہ نہیں ہوئی اور نہ ہی اس طرح کسی نے بچہ جنا ہے، کیونکہ ہر نطفہ کے ٹھہر نے کے وقت اور ہر مولود کے پیدا ہوتے وقت میں حاضر رہتا تھا، اے اب ہمیں بت پرستی سے نا امید ہو جانا چاہیئے لیکن ہوشیار ہو اور اس بات کو دھیان میں رکھو کہ اب اس کے بعد سے آدمی کو جلد بازی، کام میں ہلاکا پن اور عقل میں خفت کے ذریعہ بہ کا و۔۔۔

۷۔ ولادت پیغمبر اکرم: (امت کو وارنگ)

جس وقت کائنات آپ کے وجود کے نور سے منور ہو گئی، شیطان نے مشرق و مغرب میں جتجو شروع کر دی، جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسجد الحرام ملائکہ سے چھک رہی ہے اور جریل کو دیکھا کہ وہ حرم کے دروازہ پر تھیار لیے کھڑے ہیں۔ ابليس نے جیسے ہی حرم میں داخل ہونا چاہا جریل نے اس تھیار سے اسے بھگا دیا اور اسے اندر نہیں آنے دیا۔ ابليس نے بڑی عاجزی سے فرشتوں کے نزول کا سبب دریافت کیا۔ جریل نے کہا: اس امت کا پیغمبر پیدا ہوا

لے انسان کی گمراہی کا ایک اور سبب اس کے اموال اور اولاد میں شیطان کی شرکت ہے جس کی طرف اپنے مقام پر اشارہ ہو چکا ہے۔

۱۰۵۔ شیطانی مذہب: (لفظ "میں")

ایک صحابی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی، حضرت نے پوچھا کون ہو؟ اس نے عرض کیا "میں" ہوں اے خدا کے رسول آپ، کو غصہ آ گیا فرمایا: میں ہوں کا کیا مطلب، کیا مخلوق کے لیے میں میں کہنا جائز ہے؟ وہ شخص بہت پشیمان ہوا اس نے کہا میں خدا اور رسول کی ناراضگی سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس کے بعد اس نے آپ سے ناراضگی کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا: کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ "میں" کا لفظ مخلوق کو زیب نہیں دیتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ابليس نے آدم کے لیے سجدہ کے حکم پر خدا سے کہا تھا: "انا خیر منه"، میں ان سے بہتر ہوں، اور نتیجہ میں رحمت حق کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، یہ سن کر اس صحابی نے استغفار کیا اور عہد کیا کہ اب بھی وہ انانیت کا اظہار نہ کرے گا اور "میں" نہیں کہے گا۔۔۔

۱۰۶۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت: (جلد بازی)

جس گھری جناب عیسیٰ پیدا ہوئے شیاطین، ابليس کے چاروں طرف اکٹھا ہو گئے اور کہا اے ابليس ہم بتوں کو سرنگوں پاتے ہیں۔ ابليس نے کہا یقیناً کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے تم لوگ یہیں پر رہو تاکہ میں جتجو کروں اور اس کی وجہ تلاش کروں اس کے بعد ابليس نے مشرق سے مغرب تک تلاش کیا تو پتہ چلا کہ

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

العجلة من الشيطان والثانية من الله عزوجل

جلد بازی شیطانی کام ہے اور صبر، آرام اور وقار سے کام کرنا خدا کا
پسندیدہ انداز ہے۔ ۱

۱۰۸۔ بعثت پیغمبر (دنیا طلبی)

جب پیغمبر اسلام کی ولادت بسا عادت ہوئی تو ابليس ملعون نے آواز دے کر
اپنے تمام دوستوں اور شاگروں کو اپنے پاس جمع کر لیا اور ان سے کہا: جاؤ
ڈھونڈھو، روئے زمین پر کون سا غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے؟

شیاطین روئے زمین پر پھیل گئے اور انہوں نے مختلف سمتوں میں جا کر
تلائش کیا لیکن وہ خالی ہاتھ واپس آئے اور ابليس سے کہا کہ ہمیں تو کوئی سراغ
نہیں ملا۔ ابليس نے کہا کہ نہیں یہ کام میرا ہے اب میں خود جاؤں گا اور پتہ لگا کر
آؤں گا کہ کیا ہوا ہے، چنانچہ وہ خود گیا اور معلومات فراہم کرنے کے بعد اپنے
دوستوں کے پاس واپس آیا اور ان سے بتایا کہ اب خداوند عالم کی جانب سے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، اس کے بعد اس نے
اصحاب پیغمبر کو بہکانے کی تیاری کرنے کا اپنے دوستوں کو حکم دیا۔ لیکن شیاطین
انھیں بہکانے کے بعد جب واپس آئے تو شکایت کرتے کہ اس طرح کی امت تو
ہم نے اب تک دیکھی ہی نہیں ہے کیونکہ ہزار بہانوں اور کروفریب سے ان پر

ہے جو آخری، سب سے بہتر اور برتر نبی ہے۔ ابليس نے پوچھا: اے جبریل! اس
پیغمبر میں میرا کوئی حصہ ہے؟ جبریل نے کہا: نہیں۔ ابليس نے پوچھا: اچھا یہ بتاؤ
اس کی امت میں میرا حصہ ہے؟ جبریل نے اثبات میں جواب دیا۔ ابليس بہت
خوش ہوا اور اس نے کہا: میرے لیے بھی بہت ہے لے (کہ ان کی امت کو ہر
طرح سے بہکا کر راہ حق سے منحرف کر کے انھیں ہلاک کروں گا)۔

لہذا اے امت اسلامیہ ہوشیار اور بیدار رہ کہ شیطان تمہاری تاک میں ہے۔

حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا: اے کمیل! شیطان کے پاس بہت سے
جال ہیں جو اس نے تمہارے راستہ میں بچھار کئے ہیں دیکھو ہوشیار رہو کہیں اس
میں پھنس نہ جانا۔ ۲

دوسرے جملہ میں فرماتے ہیں: اے کمیل! بے شک شیطان کے پاس بہت
سے مکر، فریب، جال اور وسو سے ہیں اور وہ آدمیوں کی قدر و منزلت کے اعتبار
سے ان پر مسلط اور کامیاب ہوتا ہے۔ ۳

خداؤند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً

بے شک انسان بے صبر اور جلد باز ہے۔ ۴

۱۔ تفسیر علی بن ابراہیم جلد اص ۲۷، ۳۷، بخار الانوار جلد ۲۰ ص ۲۳۱

۲۔ بخار الانوار جلد ۲۷ ص ۱۷۲ و ۲۷۳

۳۔ بخار الانوار جلد ۲۷ ص ۱۷۲ و ۲۷۳

۴۔ اسراء، آیت ۱۱

حضرت علیؐ نے فرمایا:
احذر الدنیا فانہا شبکۃ الشیطان و مفسدة الایمان
دنیا سے ڈرو کیونکہ بے شک یہ دنیا شیطان کا جال اور ایمان کی تباہی
اور فساد کا سرچشمہ ہے۔۔۔

۱۱۰۔ راہ زن شیاطین: (دینوی چمک دمک)

کتاب فتوت نامہ کے مؤلف لکھتے ہیں: یہ سمجھ لو کہ راہ طریقت میں بہت سے ڈاکو اور شیاطین ہیں جنہوں نے اپنا جال پھیلا رکھا ہے تاکہ کوتاہ نظر لوگوں کو دینوی چمک دمک سے فریب دے کر پھنسائیں۔

۱۱۱۔ راہ حق کے ڈاکو: (نفس، ہوئی، دنیا، شیطان)

کہا جاتا ہے طریقت کے راستے میں راہز ان اور ڈاکو بہت ہیں جن میں سے ایک نفس ہے دوسرے ہوئی ہے تیسرے دنیا اور چوتھے شیطان ہے۔
حضرت علیؐ فرماتے ہیں:

انْ نفْسَكَ لِخُدُوعِ انْ تَشَقَّ بِهَا يَقْتَدُكَ الشَّيْطَانُ إِلَىِ
ارتكابِ الْمُحَارَمِ

بے شک تھہار نفس بہت زیادہ دھوکہ دینے والا اور نیر نگ باز ہے اگر اس پر اعتماد کرو یہ جان لو کہ شیطان تمہیں گناہوں اور محشر مات کے

غلبہ پاتے ہیں لیکن جب وہ نماز پڑھنے میں لگ جاتے ہیں تو اس عبادت کے ذریعہ ہماری مخت کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔
ابليس کہتا ہے جلد بازی نہ کرو اور پریشان نہ ہو شاید خدا دنیا کو ان پر وسعت دے اس وقت ہماری تمنا اور آرزو پوری ہو جائے کیونکہ دنیا طلبی اور حب دنیا کے ذریعہ ہی ہم ان پر قابو پاسکتے ہیں۔۔۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی ایک دعاء میں عرض کرتے ہیں:

اللَّهُمَّ وَ ان اشتمل علينا عدوك الشَّيْطَان فاستنقذنامه
پروردگارا! اگر تیرا دشمن شیطان ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے تو
اس کے شر سے ہمیں نجات دلانا۔۔۔

۱۰۹۔ ابلیس کی شادی: (دنیا)

جب آدم و حوا نے ایک دوسرے سے عقد پڑھ کر شادی کی تو ابلیس ملعون نے بھی دنیا کے ساتھ شادی کر لی۔۔۔

پیغمبر اسلام فرماتے ہیں: دنیا اچھے دیدہ زیب اور دل کش خط و خال والا سانپ ہے اسے مارڈا لو۔۔۔

ارتکاب کی طرف کھینچتا ہے۔ ۱

ایک دوسرے جملہ میں ارشاد فرماتے ہیں: ۲

هلك من اضلله الهوى واستقاده الشيطان الى
سبيل العمى ۳

جس کو خواہش نفسانی گراہ کرے وہ ہلاک ہو گیا اور شیطان کے
ذریعہ انہے راستے پر اسے گھسیٹا جائے گا۔ ۴

۱۱۲- تین قدم مستحکم: (نفس، ہوئی، دنیا، شیطان)

کتاب فتوت نامہ کے مولف کہتے ہیں کہ: اگر پوچھا جائے کہ وہ تین قدم
جنہیں قوت سے اٹھانے کا استاد کی گفتگو میں تذکرہ ملتا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟
تو کہہ دو کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قدم نفس اور اس کی خواہشات
پر رکھا جائے ایک قدم شیطان کے سر پر رکھا جائے اور ایک قدم دنیا پر اور جب
تک کوئی ان تین چیزوں کو پا گماں نہ کرے گا محکم اور استوار نہ ہو گا اور اس کے
دست و بازو مضبوط نہ ہونگے۔ ۵

حضرت علیؐ کا ارشاد ہے: ۶

من استقاده هواه استخوذ عليه الشيطان ۷

جو شخص اپنے نفس کا بندہ اور غلام ہو گا شیطان اس پر قابو پالے گا۔ ۸

دوسرے جملہ میں حضرت فرماتے ہیں:

نعم عون الشيطان اتباع الهوى

شیطان کے بہترین یارو مددگار خواہشات نفس کی پیروی کرنے
والے ہیں۔ ۹

۱۱۳- ابليس کی بات: (رغبت دنیا)

ابليس ملعون نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے کہ ایک بندہ دنیا کو دوست
رکھے اور اس کی طرف رغبت رکھے کیونکہ اس کے ذریعہ ان کے دل میں جو
وسوسہ کیا جائے وہ بہت جلدی اثر کرتا ہے اور جو چاہوں وہ انجام دیتا ہے۔ ۱۰

۱۱۴- کتنا اور سڑا ہوا مردار: (دنیا کی واقعی تصویر)

بعض علماء جن کا مکاشفہ، عرفان اور معرفت سے زیادہ سر و کار تھا انہوں نے
شیطان کو کتنے کی شکل میں دیکھا کہ وہ اپنے سینے سے مردار پٹائے ہوئے لوگوں کو
اس کی طرف بلارہا ہے اس ملعون سے پوچھا گیا یہ جو مردار سینہ سے لگائے ہے اس
کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: یہ مردار دنیا کی واقعی اور حقیقی شکل ہے۔ ۱۱

ہر چیز کی ایک باطنی صورت ہوتی ہے اور ایک ظاہری، ایک حقیقی وجہ و علّت
ہوتی ہے اور ایک غیر حقیقی، دنیا کا ظاہر سانپ کی طرح خوبصورت، دل فریب اور

۱ غر راحم جلد ۴ ص ۱۶۱

۲ شرح شہاب الاخبار، ص ۲۱۱

۳ مفاتیح الغیب ملک صدر، ترجمہ خواجهی ۲۳۲

۴ غر راحم جلد ۱ ص ۱۷۱

۵ غر راحم جلد ۲ ص ۱۹۶

۶ فتوت نامہ ص ۱۳۱

۷ غر راحم جلد ۵ ص ۳۶۵

جذب اب ہے لیکن اس کا باطن سڑا ہوا بد بودار لا شہ او مردار ہے۔

اللہ الذ ک توں اور شہتوں کے دل دادہ، جلد ختم ہو جانے والی دنیا کے بے دام غلاموں کو آخ رکار اسی بد بودار کچھڑ کے دل دل میں پھنس کر ہلاکت و بدختی سے دو چار ہونا اور عذاب آخرت کا مستحق قرار پانا ہے۔^۱

شیخ بہائی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معاذ نے کہا ہے: دنیا شیطان کی وہ شراب ہے کہ جس نے بھی اس میں سے لیا وہ اس وقت ہوش میں آتا ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور پیشمان، نادم، ناکام اور نقصان اٹھانے والا قرار پاتا ہے اور اس کا شمارِ دوں میں ہوتا ہے۔^۲

حضرت علی فرماتے ہیں:

وما هی الا جیفة مستجلبه علیها کلاب همہن اجتنابها
دنیا ایسا بد بودار مردار ہے جس کے چاروں طرف کئے اکھا ہوئے ہیں اور
ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسے نگل لیں۔^۳

آیت اللہ قوچانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”سیاحت غرب“ میں لکھتے ہیں:
انما الدنیا جیفة و طالبها کلاب ”

دنیا مردار سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اس کے خواہش مند کئے ہیں۔^۴

^۱ مفاتیح الغیب مذا صدر، ترجمہ خواجوی ۲۳۲

^۲ شکلول شیخ بہائی دفتر سوم

^۳ دیوان منسوب به امیر المؤمنین علیہ السلام حرف باء جملہ ۲۳۹

^۴ سیاحت غرب، ص ۱۳۰، ۱۴۱

۱۱۵- چار الہامات: (وسوسم)

کتاب عوارف المعارف میں منقول ہے کہ محمد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جو شخص خداوند عالم کے مقام قرب اور انسان کی بلند و بالا اخلاقی منزل پر پہنچ گیا وہ نفس کے وسوسے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اسی کتاب میں رقم طراز ہیں: بصرہ شہر میں شیخ محمد بن عبد اللہ بصری سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے الہامات اور خیالات چار طرح کے ہوتے ہیں:

(۱) نفس کی طرف سے۔

(۲) خدا کی طرف سے۔

(۳) فرشتہ اور ملک کی طرف سے۔

(۴) شیطان ملعون کی طرف سے۔

۱۔ پہلا والا الہام جو نفس کی طرف سے ہوتا ہے وہ خود اس کے دل کی پیداوار ہے۔

۲۔ وہ الہام جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ دل کی گہرائیوں سے تعلق رکھتا ہے۔

۳۔ وہ الہام جو فرشتہ اور ملک کی طرف سے ہوتا ہے وہ دل کی داہنی طرف سے ہوتا ہے۔

۴۔ اور چوتھا الہام جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور دل کے بائیں طرف

سے ہوتا ہے۔ تو اگر انسان خباشوں سے پاک ہو اور اس کا نفس برا بایوں سے پاکیزہ ہو تو شیطان جیسے ہی کسی طرف سے گھس پیٹھ کرنا چاہتا ہے

انسان اس کے وسوسوں سے باخبر ہو جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے اور اسے اپنے سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

لیکن اگر انسان کے دل پر برائی، خباثت، ظلمت، ہوا و ہوس کی تاریکی قبضہ جائے تو نفس کی وہ تاریکی اور خباثت دل کے لیے زنگ کی حیثیت رکھتی ہے جو انسانی دل کو کالا اور سیاہ بنادیتا ہے۔

تو ایسا انسان جس کا دل کالا ہے وہ ان الہامات میں جو ملائکہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان میں جو شیطان کی طرف سے دل میں ڈالے جاتے ہیں فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ جس کے نتیجہ میں آخر کار وہ غفلت و نادانی اور فتن و فجور اور فساد عمل کے دل دل میں پھنس جاتا ہے۔

شیخ شہاب الدین سہروردی ایک دوسرے جملہ میں لکھتے ہیں:

اکثر علماء اور بزرگوں کا کہنا ہے: جو شخص مال حرام کھانے کی آلوگی میں گرفتار ہے وہ الہام اور وسوسہ میں فرق نہیں سمجھ سکتا۔^۱

شیطان ملعون کا میدان عمل وجود بشر میں فکر کی حد تک محدود ہے اور فکر کے میدان میں بھی صرف وسوسہ کی حد تک اس کے اختیارات ہیں۔

لہذا بہت سے ایسے گناہ جنہیں ہم کرتے ہیں اس کی برائی اور انجام جس سے ہم والق بھی ہیں ہمارے منتظر ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کے کرنے سے باز نہیں آتے۔

اس غفلت کی وجہ سے شیطانی فریب اور اس کی وسوسہ کاری ہے جس کی

^۱ عوارف المعارف ص ۷۷ (مختصر فرق اور اضافہ کے ساتھ)

دعوت پر انسان انجام سے منھ موڑ کر خود کو گناہ و معصیت سے آلوہ کر کے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اس بنا پر شیطانی وسوسہ اور نفسانی الہامات کی راہوں کو مسدود کر دینا چاہیے اور الہی مدد کے سہارے اپنے اندر ایمان و تقویٰ کی روح کو قوت بخشیں تاکہ شیطانی وسوسوں پر غالب آیا اور کامیابی، فلاح اور سعادت و خوش بختی کو حاصل کیا جاسکے۔^۱

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: انسان وسوسہ کے ذریعہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ ذکر خدا سے وہ دوری اختیار کر لے اور قانون خدا کو حقیر سمجھے، منکرات پر عمل کرے اور خدا کے علم و آگاہی سے غفلت بر تے۔^۲

۱۱۶۔ شیطان کا مشاہدہ: (وسوسہ)

شہید محراب آیۃ اللہ دست غیب شیرازی فرماتے ہیں:

اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ میں اپنی آنکھوں سے شیطان کو نہیں دیکھ پاتا ہوں کہ اس کے فریب میں آ کر پیروی نہ کروں تو جواب دینا چاہیئے کہ یہ صحیح ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو لیکن اس کے کاموں کو تو سمجھ رہے ہو وسوسہ شیطان کا انہتائی اہم کام ہے جس وقت تم یہ دیکھو کہ گناہ اور شر کا خیال تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ ابنیں کا وسوسہ ہے اس گھڑی اپنے حواس جمع کرلو کہ کہیں اس سے دھوکہ نہ کھا جاؤ۔^۳

^۱ قلب قرآن ص ۹۸

^۲ کتاب جن و شیطان ص ۱۸۲

^۳ مصباح الشریعت باب ۳۹

اے ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو؟
فرمایا: اے قربان کرنا چاہتا ہوں۔ ابليس نے کہا: تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو جس نے پلک جھکنے کی مقدار برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ ابراہیم نے کہا: خدا نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ ابليس نے کہا: نہیں یہ حکم تمہیں شیطان نے دیا ہے۔ ابراہیم نے کہا: وائے ہو تجھ پر جس ذات نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے اس نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے۔ ابليس نے کہا: خدا کی قسم شیطان کے علاوہ کوئی تم سے اس کام کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا۔ پھر ابراہیم نے کہا: خدا کی قسم میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اور آپ منی کی طرف بڑھ گئے۔

ابليس نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور اس نے کہا: اے ابراہیم تم چونکہ لوگوں کے رہبر اور پیشووا ہو اگر تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے لگیں گے۔ لیکن ابراہیم نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنے کام میں لگے رہے۔

ایک دوسری روایت کے اعتبار سے نقل ہے کہ: حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اپنا خواب بتانے سے پہلے فرمایا: میرے بیٹے رشی اور چھپری لے لوتا کہ اس دڑھ میں جا کر ایندھن اکٹھا کریں، جب وہ لوگ چل دیے تو ابليس بوڑھے آدمی کی شکل میں ابراہیم کے سامنے آیا تاکہ انھیں اس کام کی انجام دہی سے روک دے اسی لیے اس نے ابراہیم سے کہا: اے بوڑھے آدمی یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے فرمایا: مجھے اس دڑھ میں کام ہے وہیں جا رہا ہوں۔ ابليس نے کہا:

۱۔ قصص قرآن یا تاریخ انبیاء ص ۱۲۹، بخار الانوار جلد ۲۰ ص ۲۰۸ و ۲۰۹

حضرت علی فرماتے ہیں:
الشقة بالنفس من اوثق فرص الشيطان
اپنے نفس پر اعتماد کرنا شیطان کی محکم ترین مہلوتوں میں سے ہے۔

۱۱۔ شیطان کی خوشی اور غم: (بعثت)

امام صادق علیہ السلام فرمایا: ابليس نے چار مرتبہ نالہ اور فریاد کی ہے:
۱۔ اس کا پہلا نالہ فریاد اس وقت بلند ہو جب وہ رحمت خدا سے دور ہوا۔
۲۔ دوسرا فریاد اس وقت بلند ہوئی جب اسے زمین پر اتارا گیا۔
۳۔ تیسرا فریاد اس وقت گونجی جب پیغمبروں کے نور ہدایت کی خاموشی کے قریب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔
اوہ دو مرتبہ ابليس خوشی کی زیادتی کی وجہ سے چینا ہے پہلی مرتبہ جب جناب آدم نے ممنوع درخت کا میوه کھایا۔ دوسرے اس وقت جب حضرت آدم کو بحث سے نکال باہر کیا گیا۔

۱۱۸۔ ذبح اسماعیل کا واقعہ: (وسوسمہ نفس کو سنگ سار کرنا)

جب حضرت ابراہیم اپنے صاحب زادہ جناب اسماعیلؑ کو منی کی طرف لے کر چلے تو شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا:

۱۔ غر راحم جلد ۱ ص ۳۸۱

۲۔ میزان الحکمت جلد ۵ ص ۹۶ خصال باب اربعہ ۱۳۱، بخار الانوار جلد ۲۰ ص ۷۷

گیا اور حضرت ابراہیم کے خاندان کو بہکانہیں سکا۔ ایک حدیث میں شیخ صدوقؑ نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: یہ جو حاجی منی میں رمی جمرہ کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے شیطان ان چند مقامات پر ابراہیم کے سامنے آیا اور آپ نے اسے پھر سے مارا اسی وجہ سے رمی جمرات (جمرات کو پھر مارنا سنت قرار پایا)۔

حضرت علیؑ نے فرمایا:

من اتھم نفسے فقد غالب الشیطان
جو شخص اپنے نفس کو تہمت دے (اور اپنے نفسانی وسوسوں پر اعتماد نہ کرے) اس نے شیطان پر قابو پالیا ہے۔

۱۱۹۔ شیطانی وسوسے: (ہوشیار آدمی)

حاتم اصم نے کہا: شیطان ہر روز وسوسہ کرتا ہے آج کیا کھاؤ گے؟ میں کہتا ہوں: ”موت“۔ کہتا ہے آج کیا پہنونگے؟ میں کہتا ہوں: کفن، کہتا ہے تم کہاں ہو اور تمہاری منزل کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں: قبر میں۔ جب وہ اس طرح کے دندان شکن جواب سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ ہرگز میں اس کے وسوسوں کی مکنڈ میں گرفتار ہونے والا نہیں ہوں۔ اس وقت وہ کہتا ہے تم میرے لیے بہت برے ہو کیونکہ تم سے مجھے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ اس گفتگو کے بعد وہ رنج و غم

خدا کی قسم مجھے لگ رہا ہے کہ شیطان نے تمہیں خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا ہے اور تم اسے قتل کرنے جارہے ہو جناب ابراہیم نے شیطان کو پہچان لیا اور اپنے سے دور بھگا دیا اور کہا: اے خدا کے دشمن دور ہو جا خدا کی قسم جس بات کا مجھے حکم ملا ہے اسے انجام دوں گا۔

جب ابليس ابراہیم سے ماہیں ہو گیا تو جناب اسماعیلؐ کے پاس آیا جو اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور ان سے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے باپ تمہیں کہاں لیے جا رہے ہیں۔ اسماعیلؐ نے کہا: اس درہ میں ہم ایندھن جمع کرنے جارہے ہیں اس نے کہا: خدا کی قسم وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسماعیلؐ نے پوچھا: وہ کیوں؟ اس نے کہا: وہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نے انھیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ جناب اسماعیلؐ نے جواب دیا: تو جس بات کا حکم ان کے پروردگار نے دیا ہے انھیں اسے ضرور انجام دینا چاہیے اور میں بھی ان کا دل و جان سے مطیع و فرماس بردار ہوں۔ ابليس جناب اسماعیلؐ سے بھی ماہیں ہو گیا تو وہ مکہ میں جناب ہاجرہؑ کے پاس ان کے گھر آیا اور کہا: تمہیں پتہ ہے ابراہیمؐ اپنے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں۔ انھوں نے کہا: ایندھن جمع کرنے لے گئے ہیں۔ اس نے کہا: نہیں انھیں قربان کرنے لیے گئے ہیں۔

ہاجرہ نے کہا: نہیں وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو بہت چاہتے ہیں۔ ابليس نے کہا: لیکن ان کا خیال ہے کہ خدا نے انھیں اس کام کا حکم دیا ہے۔ ہاجرہؑ نے فرمایا: اگر ان کے پروردگار نے اس کا حکم دیا ہے تو ہم سب اس کے حکم کے آگے تسلیم ہیں۔ ابليس غیظ و غصب کی حالت میں وہاں سے چلا

کی حمد و شنا میں بھی اضافہ ہوا۔

دوبارہ شیطان نے خدا سے دعاء کی کہ ایوب کے مزارع (کھیتوں) پر اسے قابو دے دے، خدا نے اس پر بھی مسلط کر دیا شیطان نے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کی پوری زراعت کو جلا کر خاکستر کر دیا جناب ایوب کے شکر میں مزید اضافہ ہو گیا۔

شیطان نے دعاء کی کہ اسے ایوب کے گوسفندوں پر مسلط کر دیا جائے خدا نے اس کی یہ بات بھی مان لی شیطان نے ان کے گوسفندوں کے لگلے نیست و نابود کر دیئے لیکن جناب ایوب کا شکر کم نہ ہوا یہاں تک کہ شیطان نے کہا مجھے ان کے بدن پر قابو دے دے، خدا نے فرمایا: ان کی زبان، عقل اور آنکھوں کے علاوہ پورے بدن پر میں نے تھے اختیار دیا۔ شیطان حضرت ایوب کے نزدیک آیا اور ایک ایسی زہر میلی پھونک ماری کہ آپ کا پورا بدن سر سے پیروتک زخمی ہو گیا اور آپ اسی حالت میں ایک طویل عرصہ تک خدا کی حمد و شنا میں مشغول رہے۔ یماری اور محتاجی کی وجہ سے جناب ایوب کو بستی والوں نے آبادی سے نکال کر ویرانہ میں ڈال دیا، آپ کی اہلیت کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کے پاس نہیں آتا جاتا تھا وہ بی بی جاتی تھی اور ایوب کے لیے غذا اور طعام کا انتظام کرتی تھی۔ شیطان جو کہ حضرت ایوب کے صبر سے عاجز آ چکا تھا اپنے منصوبہ میں ناکام ہو گیا اور ایوب کو ان تمام مصیبتوں میں بنتلا کرنے کے بعد بھی شکر کے جذبے سے منحرف نہ کر سکا تھا اس لیے بہت زیادہ پریشان تھا لہذا اس نے عاجز آ کر ایک ایسی چیز ماری کہ اس کے شکر والے یار و دوست سب کے سب جمع ہو گئے اور اس سے اس

کے ساتھ مجھ سے جدا ہو جاتا ہے۔ ۱

۱۲۰۔ حضرت ایوب اور شیطان: (صبر و شکر)

حضرت ایوب علیہ السلام خداوند عالم کے ان عظیم الشان پیغمبروں میں سے تھے جنہیں خداوند عالم نے مال و دولت اور صالح اولاد سے نوازا تھا پھر امتحان و آزمائش کی خاطران سے سب کچھ لے لیا اور خود انھیں سخت یماری میں بنتلا کر دیا تا کہ ان کے مقام صبر و شکر کو آزمائے۔ آزمائش، بلا اور انہتائی صبر کے امتحان سے گزرنے کے بعد خدا نے انھیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد کی نعمت سے نوازا اور ان کے واقعہ کو صبر و ضبط کے نمونہ اور دوسروں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا:

حضرت ایوب نعمت کی فراوانی کی وجہ سے ہمیشہ شکر کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا ذکر آسمانوں میں ہوا کرتا تھا شیطان ان کے بارہ میں فرشتوں کی گفتگو اور ذکر خیر سنا کرتا تھا اس نے خدا کی نعمتوں کے مقابلہ میں ان کا شکر دیکھا تو حسد میں بنتلا ہو گیا، خدا سے عرض کیا: پروردگار ایوب کا یہ شکر ان کے سلسلہ میں تیری نعمتوں کی فروانی کی وجہ سے ہے اگر تو ان سے ان نعمتوں کو واپس لے لے وہ تو ہرگز شکر نہیں کر سیں گے۔

خدا نے ایوب کے اموال پر شیطان کو مسلط کر دیا اور شیطان نے ان کی پوری املاک اور اولاد کو نیست و نابود کر دیا لیکن اس کے ساتھ ایوب کا شکر اور خدا

ہیں اس نے وسوسہ کرنا شروع کر دیا اور ان تمام نعمتوں کو جن سے وہ پہلے سرشار تھی انھیں یاد دلا�ا، ایوب کی جوانی اور خوبصورتی کا تذکرہ کیا اور اب جس حالت کو وہ پہنچ گئے ہیں اسے بھی بتایا اور کہا: یہ بیماری اور مصیبت کسی ختم نہ ہوگی۔

اس موقع پر زوجہ ایوب چنپڑیں۔ شیطان نے دیکھا کہ اس کی تدبیر کا رگر ہو گئی ہے وہ گیا اور ایک بکری کا بچہ لے آیا اور کہا کہ: اگر ایوب بکری کے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں لیکن ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہ لیں تو یہ ساری مصیبتوں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی، یہوی نے تمام باتیں سنیں اور بکری کا بچہ لے کر ایوب کے پاس آئیں اور پورا واقعہ بیان کیا، ایوب سمجھ گئے کہ یہ ساری باتیں کرنے والا شیطان تھا لہذا انھوں نے اپنی یہوی کو خطاب کر کے فرمایا: شیطان تمہارے پاس آیا اس نے تمہیں کچھ باتیں بتائیں تم نے ان باتوں کو قبول بھی کر لیا اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ وہ ماں، اولاد اور صحت وسلامتی جو ہمیں حاصل تھی وہ کس نے دی تھی؟

یہوی نے جواب دیا: خدا نے ایوب نے پوچھا: کتنے سال ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ یہوی نے کہا: اسی سال تک ایوب نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ اس آزمائش میں کتنے دن سے مبتلا ہیں؟ — کہا: سات سال کچھ مہینہ ہے۔

جناب ایوب نے فرمایا: اے عورت تو نے عدالت و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے مگر یہ کہ اتنے ہی سال بلا و مصیبت کے برداشت کرتی جتنے سال نعمتوں اور آسائیش میں بسر کیے تھے یعنی جس طرح اسی سال خوش حالی میں گزارے اسی طرح اسی سال بلا و مصیبت میں بھی گزارنے چاہیے تھے۔

چنپکار کا سبب دریافت کرنے لگے، اس نے بتایا کہ اس شخص (ایوب) نے مجھے عاجز کر دیا ہے کیونکہ میں نے خدا سے اس کے اموال، اولاد اور بدن پر قابو چاہا خدا نے اختیار دیا اور میں نے انھیں اس حال میں پھوپھادیا کہ لوگوں نے انھیں ایک ہندڑ میں پھینک دیا ہے اور یہوی کے علاوہ ان کا کوئی غم گسار نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ خدا کی حمد و شناسے باز نہیں آتے اس طرح میں خدا کے سامنے رسوا ہو گیا میری چنچ کا مطلب یہ ہے کہ تم سب لوگ جمع ہو کر اس کام میں میری مدد کرو اور مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ اس کے لشکر یوں اور دوستوں نے کہا تمہارا وہ مکروحیہ جس سے بڑے بڑوں کو نیست نا بود کر دیا وہ سب کہاں چلا گیا؟ انھیں نے کہا: وہ سارے ہتھ کنڈے اس شخص کے بارہ میں نا کام ہو گئے اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تم لوگ ہی کوئی تدبیر سوچو؟

دوستوں نے پوچھا: حضرت آدم کو بہشت سے کس طرح نکالا تھا؟

اس نے جواب دیا: یہوی کے ذریعہ!

انھوں نے کہا: ایوب کو بھی یہوی کے ذریعہ منحر کرو کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی پھلتا بھی نہیں ہے اور ایوب بھی اس کی بات مانتے ہیں۔

شیطان کو یہ بات پسند آئی اور اس نے ایک مرد کی صورت اختیار کی اور جناب ایوب کی زوجہ کے پاس آیا اور پوچھا: اے عورت تیرا شہر کہاں ہے؟

اس نے جواب دیا وہ اس وقت فقر و بیماری کا شکار ایک گوشہ میں پڑا ہے۔

شیطان نے جو یہ باتیں سنیں تو سمجھ گیا کہ یہ ساری باتیں بے تابی کی وجہ سے

اس کے ساتھ جناب ایوب نے قسم کھائی اور بیوی سے کہا کہ: جو بات تم نے مجھ سے کہی ہے یعنی بکری کے بچپن کو غیر خدا کے نام سے ذمہ کرنے کی اگر خدا نے مجھے شفا دی تو تمہیں سو (۱۰۰) تازیانے ماروں گا اور اب اس کے بعد سے میرے لیے تمہارے ہاتھ کا کھانا پانی حرام ہے اور تم ابھی ہمارے سامنے سے دور ہو جاؤ۔

جب وہ خاتون جناب ایوب کے پاس سے چلی گئیں تو ایوب نے خود کو بے منس ویا و را اور تنہا پایا، اپنے رخسار کو زمین پر رکھ کر سجدہ کی حالت میں خدا سے دعا کی:

”اَنِّي مَسْنَى الشَّيْطَانَ بِنَصْبٍ وَ عَذَابٍ“

پروڈگار! شیطان نے مجھے سخت رنج و عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے تو اپنے فضل و کرم سے مجھے نجات دے۔۔۔

یہی دعا تھی جس کے سبب جناب ایوب سے ساری بلا کیں دور ہو گئیں اور انھیں وحی ہوئی کہ سراخا ہو تو تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب اپنا پیرز میں پر مارواں حکم پر عمل کرتے ہی وہ ویرانہ سر سبز ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، ایوب نے اپنے آپ کو اس میں دھویا جس سے ان کی تمام بیماریاں بر طرف ہو گئیں اور جو نعمتیں ان سے چھپن گئی تھیں خدا نے انھیں یکے بعد دیگرے واپس کر دیں۔ دوسرا طرف بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ ایوب نے مجھے اپنے پاس سے بھگا دیا ہے لیکن ان کے پاس کوئی تونیں ہے جو انھیں کھانا پانی دے اور ان کی خبر گیری کرے اگر میں

بھی ان کے پاس نہ جاؤں تو وہ بھوک سے مر جائیں گے اور صحراء کے درندے انھیں کھا جائیں گے یہ خیال آتے ہی وہ ایوب کی طرف چل پڑیں لیکن انھیں وہ کھنڈر، ویرانہ اور ایوب کہیں دکھائی نہ دیے اس کی جگہ ایک سربر باغ نظر آیا جس میں ایک خوبصورت اور صحیت مند جوان دکھائی دیا۔ زوجہ نے یہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور ڈریں۔ ایوب اپنی زوجہ کے پاس آئے اور بتایا کہ میں وہی ایوب ہوں جن کو تم نے شیطان کے لیے بکری کے بچپن کی قربانی کرنے کے لیے کہا تھا لیکن میں نے اپنے پروڈگار کی اطاعت و فرمائیں برداری کی اور شیطان کی بات نہ مانی جس کی وجہ سے خدا نے ہماری دعا قبول کر لی اور ہمیں دوبارہ اپنی نعمتوں سے نواز دیا جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔

جب ایوب نے شفایا پائی اور خدا نے انھیں صحیت و سلامتی اور گذشتہ نعمتوں سے نواز اتو انھوں نے اپنی قسم پر عمل کرنا چاہا، وہ سوچ رہے تھے کہ اپنی قسم پر کس طرح عمل کریں اور ایمان دار، باوفا اور مہربان خاتون کو کیوں کر سو (۱۰۰) تازیانے ماریں، خداوند عالم نے جیسا کہ سورہ حص کی آیت ۲۲ میں بیان فرمایا: آپ کو حکم دیا کہ باریک تیلیاں جن کی تعداد سو ہو اس کا ایک مٹھا لے کر ہلکے سے مار دیں اس طرح ان کی قسم پوری ہو سکتی ہے۔۔۔

۱۲۱۔ ابیس کا طعنہ: (شکر)

شکر وہ بزرگ مقام اور بلند درجہ ہے جس تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہے اسی

و الشّیاطین کل بناٰ و غواص
اور شیاطین کو جو بلند عمارتیں بناتے تھے اور دریا سے قیمتی جواہرات

لیے خداوند عالم نے فرمایا ہے۔

”قلیل من عبادی الشکور“

میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شرک کرنے والے ہیں۔۱

ابیس نے آدمی کے بارہ میں خدا کو طمعنہ بھی دیا اور کہا:

ولاتجد اکثر هم شاکرین

لیکن تو ان میں سے اکثر کوشکر کرنے والا نہ پائے گا۔۲

۱۲۲۔ حضرت سلیمان اور شیاطین: (شکر نعمت)

سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے خداوند عالم سے درخواست کی کہ وہ انھیں ایسی حکومت و بادشاہی عنایت کرے کہ ان کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے وہ غلبہ، جبرا اور لوگوں پر ظلم و ستم کے ذریعہ سے مسلط ہوئے ہیں، خداوند عالم نے انھیں اپنی بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا: مثلاً نبوت، سلطنت، پرندوں اور جانوروں کی زبان کا علم، قضاؤت و حکمت کا علم اس کے علاوہ ہوا، جن اور شیاطین کو آپ کے تابع فرمان قرار دیا جو آپ کے لیے عمارتیں بناتے اور سمندر میں غوطہ لگا کر جواہرات نکالتے تھے۔

و الشّیاطین کل بناٰ و غواص

نکالتے تھان کے تابع فرمان بنادیا تھا۔۱
حضرت سلیمان نے جو عمارتیں بنائیں ان میں سے ایک بیت المقدس ہے جب آپ شہر کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو مسجد بنانا شروع کی آپ نے شیاطین کے گروہ در گروہ بنائے اور انھیں سونے اور جواہرات کی کان کنی میں لگادیا ایک گروہ کو انھیں بیت المقدس پہنچانے کے کام پر مأمور کیا، ایک جماعت کو مشک و غیرہ اور دوسرے عطیریات لانے کے کام پر لگادیا، ایک گروہ سمندروں سے مردار یہ نکالتا اور اسے بیت المقدس تک پہنچاتا۔

سورہ انبیاء، ص ۲ اور سبائیں مختلف آیتوں میں بڑی عمارتوں، عبادات گاہوں، پتھر کے حضوں اور دیگوں کے سلسلہ میں اجمالی اشارہ ملتا ہے۔۲

اس سلسلہ میں ایک حکایت نقل ہوئی ہے: شیاطین حضرت سلیمان کے حکم سے پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ ایک دن ابیس ملعون نے شیطانوں سے پوچھا: تمہارا کیا حال ہے؟ انھوں نے کام کی زیادتی کی شکایت کی اور کہا کہ اب وہ عاجز آگئے ہیں۔ ابیس نے کہا جب پتھر کھکھرواپس آتے ہو تو خالی ہاتھ ہوتے ہو یا نہیں؟ انھوں نے کہا: کیوں نہیں، ابیس نے کہا: پتھر تو تمہیں آرام ہے ہوانے شیاطین کی گفتگو جناب سلیمان کو بتا دی تو آپ نے حکم دیا جب پتھر لے جاؤ تو واپسی میں گلی مٹی لے آؤ۔ جب پتھر ابیس نے شیطانوں سے خیریت دریافت کی تو انھوں نے اور شکایت کی تو اس نے کہا یہ بتاؤ

تمہیں رات میں سونے اور آرام کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم رات میں سوتے اور آرام کرتے ہیں ہوانے یہ گفتگو بھی حضرت سلیمان تک پہنچا دی، آپ نے حکم دیا کہ شیاطین دن رات کام کریں وہ لوگ اس چیز سے عاجز آگئے تھے اور ان کی طاقت جواب دے گئی تھی۔

آخر کار جناب سلیمان کی وفات ہو گئی، شیاطین پر کام کا اتنا دباو تھا کہ جب انہوں نے آپ کی وفات کی خبر سنی تو خوشی سے ناچنے لگے۔

تمام شد جلد اول

۱۸ اگست ۲۰۰۷ء مطابق ۷ جمادی الاولی ۱۴۲۲ھ

چہارشنبہ ۳۰:۱۱ بجے شب

زینبیہ اسلامی سینٹر، ممبئی

ناشر:
العلم پبلی کیشنز

AL-ILM Publications

Zainabia Islamic Centre,
132-Husainiya Marg, Mumbai-400003.
Phones: (022) 2 3413227, 2 3461019
email : zainabia@vsnl.com, www.zainabiah.com
cover design : sayed razi